

B9ED301CCT

احتساب برائے اکتساب

(Assessment for Learning)

فاصلاتی اور روایتی نصاب پر مبنی خود اکتسابی مواد

برائے

بیچلر آف ایجوکیشن

(تیسرا سمسٹر)

نظامت فاصلاتی تعلیم

مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی

حیدرآباد-32، تلنگانہ، بھارت

© مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، حیدرآباد
کورس۔ بچلر آف ایجوکیشن

ISBN: 978-93-80322-15-5

First Edition: August, 2018

Second Edition: July, 2019

Third Edition: March, 2022

ناشر	:	رجسٹرار، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، حیدرآباد
اشاعت	:	مارچ، 2022
قیمت	:	100 روپے
تعداد	:	1000 کاپیاں
ترتیب و تزئین	:	ڈاکٹر محمد اکمل خان، نظامت فاصلاتی تعلیم، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، حیدرآباد
سرورق	:	ڈاکٹر ظفر احمد (ظفر گلزار)، ڈی ٹی پی، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، حیدرآباد
مطبع	:	کرشک آرٹ پرنٹرز، حیدرآباد

احتساب برائے اکتساب

(Assessment for Learning)

For B.Ed. 3rd Semester

On behalf of the Registrar, Published by:

Directorate of Distance Education

Maulana Azad National Urdu University

Gachibowli, Hyderabad-500032 (TS), Bharat

Director: dir.dde@manuu.edu.in **Publication:** ddepublication@manuu.edu.in

Phone: 040-23008314 **Website:** manuu.edu.in



کورس ریوژن کمیٹی

(Course Revision Committee)

Prof. Mushtaq Ahmed I. Patel

Professor, Education (DDE)

Prof. Najmus Saher

Professor, Education (DDE)

Dr. Sayyad Aman Ubed

Associate Professor, Education (DDE)

Dr. Banwaree Lal Meena

Assistant Professor, Education (DDE)

Dr. Mohd Akmal Khan

Directorate of Distance Education, MANUU

Dr. Abdul Basit Ansari

Directorate of Distance Education, MANUU

Mr. Faheem Anwar

Directorate of Distance Education, MANUU

پروفیسر مشتاق احمد آئی۔ پیل

پروفیسر، تعلیم (ڈی ڈی ای)

پروفیسر نجم السحر

پروفیسر، تعلیم (ڈی ڈی ای)

ڈاکٹر سید امان عبید

اسوسی ایٹ پروفیسر، تعلیم (ڈی ڈی ای)

ڈاکٹر بنواری لال مینا

اسٹنٹ پروفیسر، تعلیم (ڈی ڈی ای)

ڈاکٹر محمد اکمل خان

نظامت فاصلاتی تعلیم، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی

ڈاکٹر عبدالباسط انصاری

نظامت فاصلاتی تعلیم، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی

جناب فہیم انور

نظامت فاصلاتی تعلیم، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی

نظامت فاصلاتی تعلیم

مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی

گچی باؤلی، حیدرآباد۔ 32، تلنگانہ، بھارت



مجلس ادارت - اشاعت اول و دوم

(Editorial Board-1st and 2nd Edition)

مضمون مدیر

(Subject Editor)

Prof. Najmus Saher

Professor and Programme Coordinator, B.Ed. (DM)

Directorate of Distance Education

Maulana Azad National Urdu University, Hyderabad

پروفیسر نجم السحر

پروفیسر و پروگرام کوآرڈینیٹر، بی۔ ایڈ۔ (فاصلاتی طرز)

نظامت فاصلاتی تعلیم، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، حیدرآباد

زبان مدیر

(Language Editor)

Prof. Najmus Saher

Professor and Programme Coordinator, B.Ed. (DM)

Directorate of Distance Education

Maulana Azad National Urdu University, Hyderabad

پروفیسر نجم السحر

پروفیسر و پروگرام کوآرڈینیٹر، بی۔ ایڈ۔ (فاصلاتی طرز)

نظامت فاصلاتی تعلیم، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، حیدرآباد

نظامت فاصلاتی تعلیم

مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی

گچی باؤلی، حیدرآباد-32، تلنگانہ، بھارت



مجلس ادارت - اشاعت سوم

(Editorial Board-3rd Edition)

مضمون مدیران

(Subject Editors)

Prof. Mushtaq Ahmed I. Patel

Professor, Education (DDE)

Prof. Najmus Saher

Professor, Education (DDE)

Dr. Sayyad Aman Ubed

Associate Professor, Education (DDE)

Dr. Banwaree Lal Meena

Assistant Professor, Education (DDE)

پروفیسر مشتاق احمد آئی۔ پیٹل

پروفیسر، تعلیم (ڈی ڈی ای)

پروفیسر نجم السحر

پروفیسر، تعلیم (ڈی ڈی ای)

ڈاکٹر سید امان عبید

اسوشی ایٹ پروفیسر، تعلیم (ڈی ڈی ای)

ڈاکٹر بنواری لال مینا

اسسٹنٹ پروفیسر، تعلیم (ڈی ڈی ای)

زبان مدیر

(Language Editor)

Dr. Mohd Akmal Khan

Directorate of Distance Education

Maulana Azad National Urdu University

ڈاکٹر محمد اکمل خان

نظامت فاصلاتی تعلیم

مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی

نظامت فاصلاتی تعلیم

مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی

گچی باؤلی، حیدرآباد-32، تلنگانہ، بھارت

پروگرام گوارڈی نیٹر
پروفیسر نجم السحر، پروفیسر (تعلیم)
نظامت فاصلاتی تعلیم، مولانا آزاد نیشنل اُردو یونیورسٹی، حیدرآباد

اکائی نمبر

مصنفین

اکائی 1

ڈاکٹر محمد محمود عالم، اسوسی ایٹ پروفیسر، کالج آف ٹیچر ایجوکیشن، آسنسول

اکائی 2

پروفیسر نجم السحر، پروفیسر (تعلیم)، نظامت فاصلاتی تعلیم، مولانا آزاد نیشنل اُردو یونیورسٹی، حیدرآباد

اکائی 3

ڈاکٹر رفیع محمد، اسسٹنٹ پروفیسر، شعبہ تعلیم وتر بیت، مانوکیمپس، حیدرآباد

اکائی 4

جناب سکیر۔ وی، کالج آف ٹیچر ایجوکیشن، بھوپال

اکائی 5

پروفیسر عبدالرحیم، کالج آف ٹیچر ایجوکیشن، بھوپال

فہرست

8	وائس چانسلر	پیغام
9	ڈائریکٹر	پیغام
10	پروگرام کوآرڈینیٹر	کورس کا تعارف
13	احساب اور تعین قدر کا مجموعی جائزہ	اکائی: 1
35	پالیسی پس منظر اور تعین قدر میں اصلاحات	اکائی: 2
47	اکتساب کے ابعاد اور آلات	اکائی: 3
64	احساب میں اساتذہ کی استعداد	اکائی: 4
83	ڈاٹا کا تجزیہ، بازرسی اور رپورٹنگ	اکائی: 5
155	نمونہ امتحانی پرچہ	

پیغام

مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی 1998 میں وطن عزیز کی پارلیمنٹ کے ایکٹ کے تحت قائم کی گئی۔ اس کے چار نکاتی مینڈیٹس ہیں: (1) اردو زبان کی ترویج و ترقی (2) اردو میڈیم میں پیشہ ورانہ اور تکنیکی تعلیم کی فراہمی (3) روایتی اور فاصلاتی تدریس سے تعلیم کی فراہمی اور (4) تعلیم نسواں پر خصوصی توجہ۔ یہ وہ بنیادی نکات ہیں جو اس مرکزی یونیورسٹی کو دیگر مرکزی جامعات سے منفرد اور ممتاز بناتے ہیں۔ قومی تعلیمی پالیسی 2020 میں بھی مادری اور علاقائی زبانوں میں تعلیم کی فراہمی پر کافی زور دیا گیا ہے۔

اردو کے ذریعے علوم کو فروغ دینے کا واحد مقصد و منشا اردو داں طبقے تک عصری علوم کو پہنچانا ہے۔ ایک طویل عرصے سے اردو کا دامن علمی مواد سے لگ بھگ خالی رہا ہے۔ کسی بھی کتب خانے یا کتب فروش کی الماریوں کا سرسری جائزہ اس بات کی تصدیق کر دیتا ہے کہ اردو زبان سمٹ کر چند ”ادبی“ اصناف تک محدود رہ گئی ہے۔ یہی کیفیت اکثر رسائل و اخبارات میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اردو میں دستیاب تحریریں قاری کو کبھی عشق و محبت کی پُر پیچ راہوں کی سیر کراتی ہیں تو کبھی جذباتیت سے پُر سیاسی مسائل میں الجھتی ہیں، کبھی مسلکی اور فکری پس منظر میں مذاہب کی توضیح کرتی ہیں تو کبھی شکوہ و شکایت سے ذہن کو گراں بار کرتی ہیں۔ تاہم اردو قاری اور اردو سماج دور حاضر کے اہم ترین علمی موضوعات سے نا بلد ہیں۔ چاہے یہ خود ان کی صحت و بقا سے متعلق ہوں یا معاشی اور تجارتی نظام سے، یا مثنوی آلات ہوں یا ان کے گرد و پیش ماحول کے مسائل ہوں، عوامی سطح پر ان شعبہ جات سے متعلق اردو میں مواد کی عدم دستیابی نے عصری علوم کے تئیں ایک عدم دلچسپی کی فضا پیدا کر دی ہے۔ یہی وہ مبارزات (Challenges) ہیں جن سے اردو یونیورسٹی کو نبرد آزما ہونا ہے۔ نصابی مواد کی صورت حال بھی کچھ مختلف نہیں ہے۔ اسکولی سطح پر اردو کتب کی عدم دستیابی کے چرچے ہر تعلیمی سال کے شروع میں زیر بحث آتے ہیں۔ چونکہ اردو یونیورسٹی کا ذریعہ تعلیم اردو ہے اور اس میں عصری علوم کے تقریباً سبھی اہم شعبہ جات کے کورسز موجود ہیں لہذا ان تمام علوم کے لیے نصابی کتابوں کی تیاری اس یونیورسٹی کی اہم ترین ذمہ داری ہے۔ انہیں مقاصد کے حصول کے لیے اردو یونیورسٹی کا آغاز فاصلاتی تعلیم سے 1998 میں ہوا تھا۔

مجھے اس بات کی بے حد خوشی ہے کہ اس کے ذمہ داران بشمول اساتذہ کرام کی انتھک محنت اور ماہرین علم کے بھرپور تعاون کی بنا پر کتب کی اشاعت کا سلسلہ بڑے پیمانے پر شروع ہو گیا ہے۔ فاصلاتی تعلیم کے طلباء کے لیے کم سے کم وقت میں خود اکتسابی مواد اور خود اکتسابی کتب کی اشاعت کا کام عمل میں آ گیا ہے۔ پہلے سمسٹر کی کتب شائع ہو کر طلباء و طالبات تک پہنچ چکی ہیں۔ دوسرے سمسٹر کی کتابیں بھی جلد طلباء تک پہنچیں گی۔ مجھے یقین ہے کہ اس سے ہم ایک بڑی اردو آبادی کی ضروریات کو پورا کر سکیں گے اور اس یونیورسٹی کے وجود اور اس میں اپنی موجودگی کا حق ادا کر سکیں گے۔

پروفیسر سید عین الحسن
وائس چانسلر

پیغام

فاصلاتی طریقہ تعلیم پوری دنیا میں ایک انتہائی کارگر اور مفید طریقہ تعلیم کی حیثیت سے تسلیم کیا جا چکا ہے اور اس طریقہ تعلیم سے بڑی تعداد میں لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی نے بھی اپنے قیام کے ابتدائی دنوں ہی سے اردو آبادی کی تعلیمی صورت حال کو محسوس کرتے ہوئے اس طریقہ تعلیم کو اختیار کیا۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا آغاز 1998 میں نظامتِ فاصلاتی تعلیم اور ٹرانسلیشن ڈویژن سے ہوا اور اس کے بعد 2004 میں باقاعدہ روایتی طرز تعلیم کا آغاز ہوا اور بعد ازاں متعدد روایتی تدریس کے شعبہ جات قائم کیے گئے۔ نو قائم کردہ شعبہ جات اور ٹرانسلیشن ڈویژن میں تقریریاں عمل میں آئیں۔ اس وقت کے اربابِ مجاز کے بھرپور تعاون سے مناسب تعداد میں خود مطالعاتی مواد تحریر و ترتیب کے ذریعے تیار کرائے گئے۔

گزشتہ کئی برسوں سے یو جی سی۔ ڈی ای ب۔ UGC-DEB اس بات پر زور دیتا رہا ہے کہ فاصلاتی نظام تعلیم کے نصابات اور نظامات کو روایتی نظام تعلیم کے نصابات اور نظامات سے مکافہم آہنگ کر کے نظامتِ فاصلاتی تعلیم کے طلباء کے معیار کو بلند کیا جائے۔ چونکہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی فاصلاتی اور روایتی طرز تعلیم کی جامعہ ہے، لہذا اس مقصد کے حصول کے لیے یو جی سی۔ ڈی ای بی کے رہنمایانہ اصولوں کے مطابق نظامتِ فاصلاتی تعلیم اور روایتی نظام تعلیم کے نصابات کو ہم آہنگ اور معیار بلند کر کے خود اکتسابی مواد SLM از سر نو بالترتیب یو جی اور پی جی طلباء کے لیے چھ بلاک چوبیس اکائیوں اور چار بلاک سولہ اکائیوں پر مشتمل نئے طرز کی ساخت پر تیار کرائے جا رہے ہیں۔

نظامتِ فاصلاتی تعلیم یو جی، پی جی، بی ایڈ، ڈپلوما اور سٹوڈنٹ کورسز پر مشتمل جملہ پندرہ کورسز چلا رہا ہے۔ بہت جلد تکنیکی ہنر پر مبنی کورسز بھی شروع کیے جائیں گے۔ متعلمین کی سہولت کے لیے 9 علاقائی مراکز بنگلور، بھوپال، درجنگ، دہلی، کولکاتا، ممبئی، پٹنہ، رانچی اور سری نگر اور 5 ذیلی علاقائی مراکز حیدرآباد، لکھنؤ، جموں، نوح اور امراتوٹی کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک تیار کیا ہے۔ ان مراکز کے تحت سر دست 155 متعلم امدادی مراکز (Learner Support Centres) کام کر رہے ہیں، جو طلباء کو تعلیمی اور انتظامی مدد فراہم کرتے ہیں۔ نظامتِ فاصلاتی تعلیم نے اپنی تعلیمی اور انتظامی سرگرمیوں میں آئی سی ٹی کا استعمال شروع کر دیا ہے، نیز اپنے تمام پروگراموں میں داخلے صرف آن لائن طریقے ہی سے دے رہا ہے۔

نظامتِ فاصلاتی تعلیم کی ویب سائٹ پر متعلمین کو خود اکتسابی مواد کی سافٹ کاپیاں بھی فراہم کی جا رہی ہیں، نیز جلد ہی آڈیو۔ ویڈیو ریکارڈنگ کا لنک بھی ویب سائٹ پر فراہم کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ متعلمین کے درمیان رابطے کے لیے ایس ایم ایس (SMS) کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے، جس کے ذریعے متعلمین کو پروگرام کے مختلف پہلوؤں جیسے کورس کے رجسٹریشن، مفوضات، کونسلنگ، امتحانات وغیرہ کے بارے میں مطلع کیا جاتا ہے۔

امید ہے کہ ملک کی تعلیمی اور معاشی حیثیت سے کچھ بڑی اردو آبادی کو مرکزی دھارے میں لانے میں نظامتِ فاصلاتی تعلیم کا بھی نمایاں رول ہوگا۔

پروفیسر محمد رضا اللہ خان

ڈائریکٹر، نظامتِ فاصلاتی تعلیم

کورس کا تعارف

احتساب (Assessment) تدریسی و اکتسابی عمل کا ایک اہم رکن اور جزو ترکیبی ہے۔ یہ تدریس و اکتساب کے عمل کو بہتر بنانے میں معلم اور متعلم دونوں کے لیے ہی معاون ثابت ہوتا ہے۔ یہ کوئی وقتی عمل نہیں بلکہ تسلسل عمل کا نام ہے۔ یہ طلبہ کی تعلیمی کامیابیوں، تعلیمی تحصیل اور دیگر مہارتوں کی تشکیل و تعمیر میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔

یہ کورس پانچ اکائیوں پر مشتمل ہے۔

پہلی اکائی میں احتساب اور تعین قدر کا مجموعی جائزہ لیا گیا ہے اور احتساب کی ضرورت اور خصوصیات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ احتساب سے جڑے مختلف اصطلاحات جیسے جانچ، امتحان، پیمائش، تعین قدر کی بھی وضاحت کی گئی ہے اور ان کے مفہوم میں فرق بتایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ احتساب کی مختلف اقسام میں درجہ بندی بھی اس اکائی میں شامل کی گئی ہے۔

دوسری اکائی میں امتحانات میں بہتری لانے کے لیے ہندوستان میں آزادی کے بعد قائم کئے جانے والے مختلف کمیشنوں کی سفارشات پیش کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ قومی نصابی خاکہ 2005 اور امتحانات میں اصلاحات سے متعلق پوزیشن پیپر کے خلاصہ کو بھی اس اکائی میں شامل کیا گیا ہے۔

اکائی (3) میں تعمیراتی اکتساب کے تناظر میں اکتساب کے مختلف ابعاد اور سطحوں کا مطالعہ کیا گیا ہے۔ تعمیراتی طرز تدریس کے لیے ایک معلم کے لیے کون سے حقائق، تصورات اور مہارتوں کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ ان تمام معلومات کو تفصیل سے اس اکائی میں شامل کیا گیا ہے۔

اکائی (4) میں تعمیریت کے تصور کی وضاحت کی گئی ہے اور احتساب کے مختلف آلات اور ان کے استعمالات کو بتایا گیا ہے۔ آخری اکائی حاصل شدہ مواد یعنی ڈاٹا کے تجزیہ، فیڈ بیک اور رپورٹنگ کے ضمن میں ہے۔ اس اکائی میں شماریاتی تکنیکوں کے استعمال کو مثالوں کے ذریعہ پیش کیا گیا ہے۔

غرض اس کورس میں وہ تمام امور کو ملحوظ رکھا گیا ہے جو اکتساب کے احتساب کے لیے ضروری خیال کئے جاتے ہیں۔ اور جن پر عمل آوری کرتے ہوئے معلم اپنی تدریس کو بہتر بنا سکتا ہے۔

پروفیسر نجم السحر

پروگرام کوآرڈینیٹر

اختساب برائے اکتساب

(Assessment for Learning)

اکائی 1 - احتساب اور تعین قدر کا مجموعی جائزہ

(Overview of Assessment and Evaluation)

اکائی کے اجزا

- 1.1 تمہید (Introduction)
- 1.2 مقاصد (Objectives)
- 1.3 اصطلاحات کے معنی اور مفہوم (Meaning and Definition of Term)
 - 1.3.1 جانچ (Test)
 - 1.3.2 امتحان (Examination)
 - 1.3.3 احتساب (Assessment)
 - 1.3.4 پیمائش (Measurement)
 - 1.3.5 تعین قدر (Evaluation)
- 1.4 احتساب کی درجہ بندی (Classification of Assessment)
 - 1.4.1 احتساب کی درجہ بندی (Classification of Assessment)
 - 1.4.2 تشکیلی اور تلخیصی (Formative & Summative)
 - 1.4.3 معیاری حوالہ جاتی جانچ اور اصولی حوالہ جاتی جانچ
- Norm - Referenced Test (NRT) and Criterion - Referenced Test (CRT)
 - 1.4.4 پیئر اسسمنٹ (Peer Assessment)
 - 1.4.5 مسلسل اور جامع تعین قدر (Continuos Comprehansive Evaluation)
 - 1.4.6 گریڈنگ سسٹم (Grading System)
- 1.5 اکتساب کا احتساب اور احتساب برائے اکتساب (Assessment of Learning and Assessment for Learning)
 - 1.6 یاد رکھنے کے نکات (Points to be Remembered)
 - 1.7 فرہنگ (Glossary)
 - 1.8 اکائی کے اختتام کی سرگرمیاں (Unit End Exercises)
 - 1.9 مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں (Suggested Books for Further Readings)

احساب ڈاٹا جمع کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ احساب کے ذریعہ اساتذہ اپنی تعلیمی کارکردگی اور طلباء کی اکتسابی حصولیابی پر مبنی ڈاٹا جمع کرتے ہیں تو یہ بجا نہ ہوگا۔ اس ڈاٹا کو جمع ہونے کے بعد اس کے تجزیہ سے طلباء کے تعلیمی حصولیابی کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ اکتساب اور تعین قدر، تعلیمی سرگرمیوں کا لازم و ملزوم جز ہے۔ اکتساب کے بغیر تعلیمی نصاب اور درجہ جماعت کی تعلیمی سرگرمیاں نامکمل ہیں۔ اکتسابی عمل کو براہ راست سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ تعین قدر کی منصوبہ بندی کی نظر ثانی کی جائے اور اس کی پیچیدگیوں کو سمجھا جائے۔ مؤثر اکتسابی عمل کو انجام دینے کے لیے اکتساب کے مختلف طریقوں کا جاننا اور اسے مؤثر طریقے سے استعمال کرنے کی صلاحیت کا ہونا ضروری ہے۔ لہذا استاد سے یہ امید کی جاتی ہے کہ وہ تشخیص کے نتیجے کی مدد سے درجہ جماعت کی تعلیمی و اکتسابی سرگرمیوں کو حالات اور وقت کے ضرورت کے مد نظر خاطر خواہ تبدیل کرنے کے اہل ہوں۔ تحقیقات اور تجربات کی روشنی میں یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ طلباء کی تعلیم کو اسی وقت استقامت ملتی ہے جب اکتساب اور احساب واضح مقاصد پر مبنی ہوتے ہیں۔ اکتسابی اور احسابی عمل کو مزید بہتر بنانے کے لیے ان نکات کو ذہن میں رکھنا لازم ہے۔

- ☆ طلباء کے اکتسابی ضروریات کی روشنی میں تدریسی عمل اور احساب کو انجام دیں۔
- ☆ طلباء تعلیمی عمل میں شامل ہوں۔
- ☆ احسابی معلومات اور تدریسی عمل کے درمیان مطابقت ہو۔
- ☆ والدین اپنے بچوں کی تدریسی اہلیت سے باخبر ہوں اور اسکول و انتظامیہ کی مدد سے بہتر بنانے کے لیے کوشاں رہتے ہوں۔
- ☆ طلباء، والدین اور عوام الناس کا تعلیمی نظام میں اعتماد ہو۔

تشخیص اور تعین قدر کا مقصد طلباء کو تدریسی و اکتسابی حصولیابی سے آگاہ کرنا ہے۔ نہ کہ اس بات کو بتانا کہ انہوں نے کون سی چیزیں حاصل نہیں کیں۔ اساتذہ کی سرپرستی میں یہ عمل پیشہ وارانہ صلاحیت کے فروغ میں مدد فراہم کرتا ہے اور فراہم شدہ فیڈ بیک کی مدد سے اساتذہ اپنے تدریسی طریقہ کار کو مؤثر اور پیشہ وارانہ صلاحیت کو فروغ دیتے ہیں۔ لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تشخیص اور تعین قدر کا درس و تدریس کے تمام پہلوؤں پر خاطر خواہ اثر پڑتا ہے۔ اس سے تدریسی عمل کو منظم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اس کے ذریعہ سے کسی بھی پروگرام کی کمیوں کی نشاندہی کی جاتی ہے اور اسے بہتر بنانے کے اقدام اٹھائے جاتے ہیں۔ اس کی مناسبت، منصوبہ بندی اور عمل آوری کسی بھی پروگرام کے مقاصد کی حصولیابی کا ضامن ہوتا ہے۔

اس اکائی کی تکمیل کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ:

- ☆ مہارت، علم، رویے اور اقدار پر مبنی مخصوص مقاصد کی وضاحت کر سکیں۔
- ☆ مواد یا تدریس کی تکنیک کو منتخب کرنے اور منظم کرنے کے اہل ہو سکیں۔
- ☆ مقاصد کی تکمیل کے تعین کے لیے بنیاد کی تلاش میں کامیاب ہو سکیں۔
- ☆ طے شدہ خاکہ کی مناسبت سے اکتسابی سرگرمیوں کو منظم کرنے کے اہل ہوں۔

☆ تعین قدر کے مختلف طریقوں میں تفریق اور ضرورت کے مطابق اسے استعمال کرنے کے قابل ہوں۔

1.3 اصطلاحات کے معنی اور مفہوم (Meaning and Definition of Term)

تعلیمی میدان میں جانچ، احتساب، پیمائش اور تعین قدر کا استعمال طلباء کے ذریعہ تفویض شدہ مواد کی تشکیل، مقاصد کی حصولیابی کے تعین کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس کے ذریعہ اس بات کا تعین کیا جاتا ہے کہ بچوں نے کس حد تک طے شدہ معیارات اور مہارت کو حاصل کیا ہے۔ ماہرین تعلیم مندرجہ بالا اصطلاحات کے درمیان وضاحت کے ساتھ تفریق کرتے ہیں جس کے ذریعہ ان کو سمجھنا اور عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔

1.3.1 جانچ (Test)

طالب علم کی معلومات کی سطح کو جانچنے اور ان کے ذریعہ چیزوں کو سمجھنے کی لیاقت کو معلوم کرنے کو جانچ کہا جاتا ہے۔ بارو اور میک گی کے مطابق ٹسٹ ایک ایسا آلہ یا طریقہ کار ہے جسے طالب علم جواب حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اس کی مدد سے یہ طے کرتے ہیں کہ ان میں چند خصوصیات مثلاً فٹنس (Fitness)، مہارت، علم و فہم اور اقدار موجود ہیں یا نہیں۔ جانچ کے مختلف اقسام مندرجہ ذیل ہیں۔

☆ تشخیصی جانچ (Diagnostic Test): اس جانچ کے ذریعہ یہ جاننے کی کوشش کی جاتی ہے کہ طلباء کن چیزوں سے واقف ہیں اور کن سے نہیں۔ اس قسم کی جانچ کسی بھی پروگرام کے شروع کرنے سے پہلے کی جاتی ہے۔ یہ جانچ ان مضامین پر نظر ثانی کرتی ہے جسے مستقبل قریب میں شامل کیا جانا ہے۔

☆ تشکیلی جانچ (Formative Test): اس طرح کے جانچ کا استعمال تعلیمی سرگرمیوں کے دوران کیا جاتا ہے جس کی مدد سے طلباء کی تعلیمی ماحصل کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ پوری تعلیمی سرگرمیوں کے دوران اسے کئی مرتبہ استعمال کیا جاتا ہے جس سے اس کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ طلباء کے فہم اور پیش کرنے کے طریقے میں کتنی تبدیلی رونما ہوئی۔

☆ بنچ مارک (Benchmark): اس جانچ سے یہ جاننے کی کوشش کی جاتی ہے کہ طلباء نے مواد پر پوری طرح سے عبور حاصل کیا ہے یا نہیں اس طرح کے جانچ کا استعمال پروگرام کے دوران اور پروگرام کے آخر میں کیا جاتا ہے اور اس سے یہ جاننے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کیا طے شدہ مدت میں مواد کو جزوی یا مکمل طور پر پورا کیا گیا ہے۔

☆ تلخیصی جانچ (Summative Test): اس جانچ کے ذریعے سے یہ جاننے کی کوشش کی جاتی ہے کہ طلباء نے کس حد تک مواد کو پڑھا اور سمجھا ہے۔ اس جانچ کو پروگرام کی تکمیل کے بعد استعمال میں لایا جاتا ہے۔ یہ Bench Mark Test کی طرح کا ہی جانچ ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ایک مخصوص یونٹ کی جانچ کے بجائے اسے پورے تعلیمی سال کے دوران پڑھائے گئے مواد کو جانچنے کے لیے کیا جاتا ہے۔

فوائد (Advantage)

☆ طلباء کی تھخیل کی جانچ میں مدد ملتی ہے۔

- ☆ طلباء میں مزید پڑھائی کا رجحان پیدا ہوتا ہے۔
- ☆ معلومات کو منظم طریقے سے آئندہ پیش کرنے میں مدد ملتی ہے۔
- ☆ معلومات کو منتقل کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔
- ☆ پڑھائی میں اضافی رجحان پیدا کیا جاسکتا ہے۔
- ☆ اساتذہ کو فید بیک (Feedback) ملتا ہے۔

1.3.2 امتحان (Examination)

امتحان ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سے طے شدہ علاقے میں طلباء کے علم و مہارت کی رسمی آزمائش کی جاتی ہے۔ یہ طلباء کے علم و صلاحیت کو جانچنے کی کوشش کرتا ہے۔ انگریزی کی کولنس لغت (Collins Dictionary) کے مطابق ”امتحان ایک رسمی آزمائش ہے جس سے کسی خاص موضوع میں طلباء کے علم اور صلاحیت کا اندازہ لگایا جاتا ہے“۔ امتحانات مختلف مراحل پر تمام سال منعقد کیے جاتے ہیں۔

سمسٹر امتحان (Semester Examination)

سمسٹر سسٹم میں ایک سمسٹر کا کورس پورا ہو جانے پر طلبہ کا اندازہ قدر (Evaluation) کیا جاتا ہے۔ تعلیمی سیشن دو سمسٹر پر مشتمل ہوتا ہے۔ پہلے سمسٹر کے کورس کا اندازہ قدر دوسرے یا پھر اس کے بعد کسی سمسٹر میں نہیں کیا جاتا جبکہ ششماہی امتحان یا وقفہ جاتی (Periodic) ٹیسٹوں میں پڑھائے گئے کچھ حصے سالانہ امتحان میں دوبارہ بھی شامل کر لیے جاتے ہیں۔

وقفہ جاتی ٹیسٹ (Periodic Tests)

ایک مقررہ مدت کی پڑھائی کے بعد طلباء کی تعلیمی کامیابیوں کا وقفہ جاتی ٹیسٹوں کے ذریعے اندازہ لگایا جاتا ہے یہ مدت ایک مہینہ یا دو مہینہ کی ہوتی ہے۔ کچھ اسکولوں میں یہ وقفہ جاتی ٹیسٹ، ماہانہ (Monthly) ٹیسٹ یا ٹرمینل ٹیسٹ بھی کہلاتے ہیں ان ٹیسٹوں کے مقاصد دو گانہ ہیں۔ (i) طلباء کی کامیابیوں سے متعلق، استاد اور طلباء دونوں کو بازرسی (Feed Back) کی فراہمی اور (ii) کمزوریاں دور کرنے میں طلباء کی مدد۔ یہ ٹیسٹ تعیین قدر کی تشکیلی نوعیت (Formative Nature) کے حامل ہیں اور وقفہ وقفہ کے بعد ان کو منعقد کیا جاتا ہے۔

ششماہی امتحان (Half Yearly)

اس قسم کے امتحان آدھا سیشن پورا ہونے کے بعد لیے جاتے ہیں اور ان سے طلباء کے تعلیمی پہلو کا امتحان مقصود ہوتا ہے۔ وقفہ جاتی ٹیسٹوں میں جو کارکردگی طلباء نے کی ہے ششماہی امتحان میں اس کو بھی معلوم کیا جاتا ہے۔ اس کا مقصد بھی دو گانہ ہے: (i) ایک تو بچوں کی کارکردگی کا اندازہ اور (ii) دوسرے ان کی خامیوں کی اصلاح۔

ششماہی امتحان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نصاب کا وہ حصہ بس پورا ہو گیا اور اس کا اب امتحان نہیں ہوگا۔ بلکہ وہ سالانہ امتحان میں بھی جانچا

جائے گا۔

سالانہ امتحان (Annual Examination)

یہ ایک تعلیمی سیشن یا ایک سال کے مکمل ہونے پر کرایے جاتے ہیں۔ سالانہ امتحانات کا مقصد یہ دیکھنا ہے کہ ایک سال میں بچوں کی تعلیمی کارکردگی کیسی رہی اور ان کی کیا پیشرفت رہی۔ سالانہ امتحانات کے اہم مقاصد حسب ذیل ہیں۔

(i) گریڈ دینا (Grading)

(ii) سرٹیفکیٹ دینا (Certification)

(iii) اگلی کلاس یا اسٹینڈرڈ میں ان کو ترقی دینا۔

اس سلسلے میں سالانہ امتحان کے نتائج کے علاوہ وقفہ جاتی ٹیسٹ اور ششماہی امتحان کی کارکردگی کو بھی اہمیت دی جاتی ہے۔

1.3.3 احتساب (Assessment)

احتساب سے ہماری مراد وہ تمام اعمال، طریقے اور آلات ہیں جو طلباء کی کامیابیوں کی پیمائش کے لیے تیار کیے جاتے ہیں جبکہ وہ یعنی طلباء کسی تعلیمی یا تدریسی پروگرام میں مشغول ہوں۔ اندازہ قدر کا خاص تعلق اس بات کا پتہ لگانے سے ہے کہ پروگرام کے مقاصد کس حد تک پورے ہوئے۔ انگریزی اصطلاح Assessment کو اکثر Evaluation اور Measurement کے متبادل کے روپ میں بھی استعمال کر لیا جاتا ہے۔ دراصل احتساب کا مفہوم تعین قدر (Evaluation) کے مقابلہ میں محدود اور پیمائش (Measurement) کے مقابلے میں وسیع تر ہے۔ لفظ ایس (Assess) کا اشتقاقی مفہوم ’پاس بیٹھنا‘ یا فیصلہ کرنے میں مدد کرنا ہے۔ تعین قدر (Evaluation) کے مطالعہ کے وقت مناسب یہ ہے کہ ہم احتساب (Assessment) کی اصطلاح کو ڈاٹا (Data) کی فراہمی نیز Data کو قابل توضیح شکل میں مرتب و مدون کرنے تک محدود رکھیں۔ ایسا کرنے پر اس احتساب (Assessment) کی بنیاد پر فیصلے کیے جاسکتے ہیں۔

ہم سینکڑی بورڈ کے ذریعے اسکولی بچوں کے ٹسٹ کی مثال لیتے ہیں۔ ریڈنگ ہو یا رائٹنگ، سائنس ہو یا کوئی دوسرا تعلیمی شعبہ، ان سبھی میں ٹسٹ لیے جاتے ہیں پھر اس معلومات کی بنیاد پر جو سینکڑی بورڈ فراہم کرتا ہے، ماہرین تعلیم، سماجی اور سیاسی رہنما اس تعلیمی نظام کی اثر آفرینی کے بارے میں فیصلے کرتے ہیں۔ اس طرح جیسا کہ ہم نے تعریف کی احتساب یا اندازہ قدر (Assessment)، تعین قدر (Evaluation) کے بارے میں فیصلے لینے سے پہلے کا مرحلہ ہے۔ مثال کے طور پر یہ فیصلہ کرنا کہ کسی تعلیمی پروگرام کو جاری رکھا جائے، اس میں سدھار کیا جائے یا اس کو سرے سے ختم کر دیا جائے ایس میٹ (Assessment) کے ذیل میں آتا ہے۔

لہذا اندازہ قدر احتساب، علم، مہارت، رویوں اور عقائد کو مستحکم کرنے کا ایسا عمل ہے جس کے ذریعہ عام طور پر حاصل شدہ مواد کو ناپا جاتا ہے۔ احتساب کا مقصد درس و تدریس کو بہتر بنانا ہے نہ کہ صرف فیصلہ کرنا۔ تعلیمی تناظر میں احتساب معلومات کے جمع کرنے، ریکارڈنگ، اسکورنگ اور تشریح کرنے کے عمل کو کہتے ہیں۔

1.3.4 پیمائش (Measurement)

پیمائش کا مقصد خاص طور پر ڈاٹا (Data) اکٹھا کرنا ہے جیسے امتحان میں طلباء کا اسکور وغیرہ۔ پیمائش، اشیاء کے طبعی خواص جیسے لمبائی

(Length) اور کمیت (Mass) وغیرہ کو ناپنے کا عمل ہے۔ اس طرح طرز عمل (Behaviour) سے مربوط سائنس میں، اس کا تعلق Neuroticism جیسی نفسیاتی خصوصیات اور مختلف اشیاء کے تئیں ہمارے طرز عمل سے ہے۔ پیمائش کسی طالب کے ذریعہ انجام دیے گئے مفوضہ کام کے ایک اسکور (مثال کے طور پر 33/50) کو اسیس کرنا ہے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ تعین قدر (Evaluation) میں اندازہ قدر اور پیمائش دونوں شامل ہیں۔ یہ ایک وسیع تر اصطلاح ہے جو اندازہ قدر اور پیمائش (Assessment and Measurement) دونوں پر حاوی ہے۔ اس کو درج ذیل شکل کے ذریعے پیش کیا جاسکتا ہے۔ اس طرح تعین قدر کا عمل بہت جامع، موثر اور تدریس و اکتساب کے لیے بہت ضروری بھی ہے اور مطلوب بھی ہے۔ ذیل میں ہم کچھ ایسی اصطلاحات کی ضرورت اور استعمال کی وضاحت کریں گے جو اسکولوں میں تعین قدر (Evaluation) کے سیاق و سباق میں استعمال کی جاتی ہیں۔

R.N.Patel کے مطابق پیمائش ایک ایسا عمل ہے جس میں اقدار کی تفویض شامل ہوتی ہے اور جس کے ذریعے سے کسی بھی جانچ میں مقدار کو شامل کیا جاتا ہے۔ مثلاً درجہ جماعت میں بچوں کی کارکردگی کے تعین میں انفرادی نمبرات کی پیمائش اور مقداری طور پر اس کا اظہار شامل ہے۔ اگر کسی طلباء نے ریاضی میں 80 نمبرات حاصل کیے ہیں تو اس سے کوئی اور معنی اور مفہوم اخذ نہیں کیا جاسکتا۔

1.3.5 تعین قدر (Evaluation)

تدریسی عمل میں تعین قدر ناگزیر عمل ہے۔ یہ درجہ جماعت اور حقیقی زندگی میں مختلف معاملات کے بارے میں فیصلہ کرنے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ فیصلہ سازی کے اس عمل میں تعین قدر کی حیثیت ایک لازمی عنصر کی ہے۔ تعین قدر سے استاد کو طلباء کی کارکردگی اور تعلیمی کامیابیوں کو جانچنے اور پرکھنے کے مواقع میسر ہوتے ہیں۔ یہ عمل درس و تدریس کے دوران درجہ جماعت میں کچھ اور اہم امور بھی انجام دیتے ہیں۔ مثلاً

☆ درجہ جماعت کے مقاصد کو پورا کرنا۔

☆ طلبہ کی آموزشی مشکلات کا اندازہ کرنا۔

☆ آموزشی سرگرمیوں کے لیے طلبہ کو گروپوں میں تقسیم کرنا۔

☆ طلبہ کی پیش رفت کی رپورٹ کو تیار کرنا۔

مختلف مصنفین نے تعلیمی تعین کی قدر کے بارے میں مختلف آرا کا اظہار کیا ہے۔ ان کے افکار و خیالات میں اختلاف کی وجہ ان کی مختلف پیشوں سے وابستگی اور ان کا مختلف انداز فکر سے جڑا ہونا ہے۔ C.E.Beeby (1977) کے مطابق ”تعین قدر ان شواہد (معلومات) کی منظم فراہمی اور تشریح ہے جو پراسس (Process) کا ایک حصہ ہونے کے ناطہ عمل کے نقطہ نظر سے قضاوت قدر کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ اس تعریف سے چار عنصر کی ترجمانی ہوئی ہے۔

☆ شواہد کی منظم فراہمی (Organized Delevry of Evidance)

☆ شواہد کی تشریح (Interpretation of Evidance)

☆ قضاوت قدر (Judgement of Values)

☆ عملی نقطہ نظر

باررو اور میک گی کے مطابق یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں اعداد و شمار ہوتے ہیں اور جو فیصلہ کرنے کے لیے پہلے سے منسلک معیار کے مقابلے میں استعمال کیا جاسکتا ہے۔

اپنی معلومات کی جانچ (Check your progress)

1- احتساب سے کیا مراد ہے؟

2- پیمائش اور تعین قدر کے فرق کو واضح کیجیے۔

3- گریڈنگ نظام کی خوبیوں اور خامیوں کو بیان کیجیے۔

4- پیمائش، اندازہ قدر اور تعین قدر کے رشتہ کو بیان کیجیے۔

1.4 احتساب کی زمرہ بندی (Classification of Assessment)

احتساب کی زمرہ بندی: احتساب کی زمرہ بندی مختلف عوامل کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔ مثلاً

(1) مقصد (Purpose)

(2) وسعت (Scope)

(3) حاصل کردہ معلومات کی ماہیت

(4) رد عمل کا طرز

(5) تشریح

1.4.1 تشکیلی احتساب (Formative Assessment)

تشکیلی احتساب ایک ایسا عمل ہے جو پروگرام کے دوران عمل پذیر ہوتا ہے اور پروگرام کے اختتام تک جاری رہتا ہے۔ اس کا مقصد جاری

سرگرمیوں کا جائزہ لینا اور اس کے ذریعے پروگرام کو بہتر بنانا ہے۔ اس پروگرام کو مختلف سطح پر ضرورت کے مطابق تبدیل کیا جاتا ہے جس کے ذریعے طے شدہ مقاصد کو حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ تعلیمی ترقی کی مسلسل نظر ثانی کرتا ہے۔ یہ طلباء اور اساتذہ دونوں کے لیے موافق ماحول تیار کرتا ہے۔ اگر اس احتسابی عمل کو موثر طریقے سے استعمال کیا جائے تو یہ طلباء میں بہترین تعلیمی مظاہرہ کا مظہر ہوگا۔ اور اساتذہ کے کام کی زیادتی کو بھی کم کر دے گا۔ یہ احتسابی عمل طلباء کے احتساب کا فوری طور پر تخمینہ پیش کرتا ہے۔ اس سے بچوں کے خود اعتمادی میں اضافہ ہوتا ہے۔

تشکیلی احتساب میں درجہ جماعت کا کام، گھر کا کام، زبانی سوال و جواب، کوئز، پروجیکٹ، درجہ جماعت کی سرگرمیوں کا مشاہدہ، انفرادی سرگرمیاں، گروہی سرگرمیاں، سننا، پڑھنا، ڈرامہ بازی، تقریر، بیت بازی، تجربہ گاہی سرگرمیاں، سمینار، سمپوزیم، نمائش، رسمی جانچ میں شامل ہوتے ہیں۔ یہ اساتذہ کی تعلیمی لیاقت کی بھی پیمائش کرتا ہے جس کی مدد سے وہ اپنے طریقوں اور تکنیکوں میں تبدیلی لاسکیں اور اپنے طریقہ تدریس کو موثر بنا سکیں۔ یہ طلباء کو بھی اپنے احتساب کا موقع فراہم کرتا ہے جس سے وہ اپنی تعلیمی سرگرمیوں کو بہتر بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ Bob Stake کے مطابق ”جب باورچی کھانا چکھتا ہے تو یہ عمل احتسابی عمل کہلاتا ہے اور جب اس پکوان کو مہمان چکھتے ہیں تو یہ عمل شخصی عمل کہلاتا ہے“۔ احتسابی عمل کے دو اجزا ہیں۔

(i) **عملی احتساب (Implementation Assessment):** عملی احتساب ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے اس بات کا تعین کیا جاتا ہے کہ کوئی کام منصوبہ بند طریقہ سے کیا گیا یا نہیں۔ ایسے احتساب کو ”پروسیسنگ احتساب“ بھی کہا جاتا ہے۔ اس طرح کے احتسابی عمل کا کبھی کبھی کئی مرتبہ ایک ہی پروگرام کے دوران عمل درآمد کیا جاتا ہے۔ اس عمل کا بنیادی اصول یہ ہے کہ کسی پروگرام کے نتائج یا اثرات کے تعین سے پہلے اسے یقینی بنالے کہ پروگرام اور اس کے اجزا واقعی کام کر رہے ہیں اور وہ طے شدہ منصوبوں پر مبنی ہے۔ مندرجہ ذیل سوالات عملی احتساب کو معاونت اور ہدایت فراہم کرتے ہیں۔

- ☆ کیا مناسب طلباء کو پروگرام کے لیے منتخب کیا گیا تھا؟
- ☆ کیا مناسب انتخاب کی حکمت عملی کا استعمال کیا گیا تھا؟
- ☆ کیا سرگرمیاں اور حکمت عملی منصوبے میں بیان کردہ مماثلت سے متعلق ہیں؟
- ☆ کیا طالب علموں کو علمی اور ذاتی معاونت ملی؟
- ☆ کیا مناسب انتظامی منصوبہ تیار کیا گیا اور پیروی کی گئی؟

(ii) **ترقیاتی احتساب (Progress Assessment):** ترقیاتی احتساب کا مقصد پروگرام کے مقاصد کو پورا کرنے میں ترقی کا اندازہ لگانا ہے۔ اس کے ذریعے اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ شرکاء کی ترقی اپنے مقصد کے مناسبت سے ہو رہی ہے یا نہیں۔ ترقیاتی احتساب میں مندرجہ ذیل سوالات شامل کئے جاتے ہیں۔

- ☆ کیا شرکاء پروگرام کے متوقع مقاصد کی طرف بڑھ رہے ہیں؟
- ☆ کیا وہ اپنی تعلیمی مہارت کو بہتر بنانے میں کامیاب ہو رہے ہیں؟
- ☆ کیا وہ خود میں اعتماد پیدا کر پارہے ہیں؟

☆ کیا طالب علم ترقیاتی پروگرام کے اہداف کی روشنی میں ترقی کر رہے ہیں؟

تشکیلی احتساب کے فوائد (Advantages of Formative Assessment)

تشکیلی احتساب کے مندرجہ ذیل فوائد ہیں۔

☆ علم کو فروغ دینا (Promoting Knowledge)

تشکیلی احتساب طلباء اور اساتذہ کی ضروریات کی شناخت اور ان کے مقاصد و تعلیمی اہداف کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اس طریقہ کی مدد سے انفرادی رکاوٹوں کی شناخت کی جاتی ہے اور اسے دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔

☆ مستقبل کی منصوبہ بندی (Future Plan)

تشکیلی احتساب کے ذریعے مستقبل کی منصوبہ بندی کی جاتی ہے۔ جہاں تدریس اور دیگر کیریئر کے کاموں سے متعلق کسی بھی طریقہ کو تبدیل کیا جاتا ہے اور اس کی اصلاح کی جاتی ہے۔ اس طرح سے مسلسل فیڈ بیک کے ذریعے ترقی کے راستوں پر چل کر طلباء اپنے مقصد کو حاصل کرتے ہیں۔

☆ کامیاب نتائج کی حصولیابی (Achieving Successful Result)

تشکیلی احتساب انفرادی طور پر انسان کی ترقی کی حصولیابی میں مدد کرتا ہے۔ اس میں فیڈ بیک تمام کمزوریوں کی طرف اشارہ کرتا ہے جسے پروگرام کو بہتر بنانے میں اور مقصد کو حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے۔

☆ مسلسل بہتری (Continuous Improvement)

پروگرام کے ابتدائی مرحلہ میں کمیوں کا پتہ لگا کر اسے دور کرنے سے پروگرام براہ راست اپنی منزل تک پہنچتا ہے اور اس میں مزید بہتری کی گنجائش بڑھ جاتی ہے۔ درس و تدریس میں بنیادی تصوراتی غلطیوں کا پتہ لگا کر شرعیاتی مرحلے میں اسے دور کر دینے سے طلباء کو ہر قدم پر مدد ملتی ہے اور وہ اسے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔

☆ فوری تاثرات:

تشکیلی احتساب فوری طور پر کسی بھی پروگرام کا فیڈ بیک فراہم کرتا ہے۔ اس سے عکاسی کی مشق میں مدد ملتی ہے۔

☆ اہداف اور منصوبوں کی ترتیب:

تشکیلی احتساب سے دوبارہ منصوبہ بندی اور پروگرام کے تجزیہ میں مدد ملتی ہے۔ اس طرح کی تشخیص سے پروگرام کے منصوبوں کا موازنہ کر کے اسے دوبارہ ترتیب دیا جاتا ہے اور نئے سرے سے اہداف طے کئے جاتے ہیں۔ تشکیلی احتساب مستقبل کے پروجیکٹ کی منصوبہ بندی میں بھی مدد کرتا ہے۔

تشکیلی احتساب کے نقصانات (Disadvantage of Formative Assessment)

تشکیلی احتساب کے مندرجہ ذیل نقصانات ہیں۔

☆ وقت طلب: (Time Taking)

تشکیلی احتساب میں وقت اور وسائل کی بہت ضرورت پڑتی ہے۔ اس طریقے میں بار بار ڈاٹا جمع کرنا پڑتا ہے جس میں وسائل اور وقت صرف ہوتا ہے۔ بعد میں اس ڈاٹا کو تجزیہ کرنے کے بعد اس کے نتائج کی روشنی میں پروگرام کو نئے طریقے سے نافذ کیا جاتا ہے۔

☆ تھکاؤ کا عنصر: (Fatigue Factor)

اس طرح کی جانچ میں منصوبہ بندی کی بار بار نظر ثانی اور اس کے عملی نفاذ سے انسان میں تھکاؤ کی سی کیفیت پیدا ہوتی ہے جس سے اس جانچ میں دلچسپی کم ہونے لگتی ہے۔

☆ تربیت یافتہ اور پیشہ ور ماہرین کی ضرورت:

اس جانچ کو انجام دینے کے لیے ترتیب یافتہ ماہرین کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایسے ماہرین کی غیر موجودگی سے اس جانچ کو صحیح طریقے سے انجام نہیں دیا جاسکتا۔

☆ مشکلات کا سامنا (Facing the Problem)

پروگرام کی جانچ کے دوران کئی طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بدلے ہوئے حالات میں ان مشکلوں کو مناسب طریقے سے حل کرنا کبھی کبھی دشوار کن امر ثابت ہوتا ہے۔

☆ اخراجات کی کمی:

تشکیلی احتساب میں اخراجات کی کمی کام کی تکمیل میں مشکلات پیدا کرتی ہے۔

1.4.2 تلخیصی احتساب (Summative Assessment)

پروگرام کے اختتام پذیر ہونے پر اس کی قابلیت اور افادیت کا اندازہ لگانے کے لیے تلخیصی احتساب کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اس کی مدد سے طلباء کی اکتسابی و مہارتی حصولیابی اور تعلیمی ماحصل کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ عمومی طور پر اس نتیجہ کو فیصلہ سازی میں استعمال کرتے ہیں اور یہ طے کرتے ہیں کہ کسے کون سا گریڈ دینا ہے، پروگرام کس حد تک کامیاب ہوا، کیا اسکول کے تعلیمی نظام میں بہتری آئی وغیرہ۔ تلخیصی احتساب میں عموماً ایسے سوالات شامل کیے جاتے ہیں جو ترتیبی احتساب میں بھی شامل ہوتے ہیں۔ لیکن یہ عمل پروگرام کے آخر میں عمل پیرا ہوتے ہیں۔ تلخیصی احتساب میں توجہ نتیجے پر مرکوز ہوتی ہے۔ گریڈ تلخیصی احتساب کا نتیجہ تصور کیا جاتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ طلباء نے قابل قبول تعلیمی لیاقت حاصل کی ہے یا نہیں۔ تلخیصی احتساب پروڈکٹ اور پینڈ عمل (Product Oriented Process) ہے جو پروگرام کے نتیجے پر توجہ مرکوز کرتی ہے۔ اس احتسابی عمل میں پروگرام کی تکمیل کے بعد دوبارہ نظر ثانی کی گنجائش نہیں ہوتی۔ حتمی امتحان، SAT، تلخیصی احتساب کی چند مثالیں ہیں۔ مندرجہ ذیل سوالات تلخیصی احتساب میں معاونت اور ہدایت فراہم کرتے ہیں۔

☆ پروگرام کس حد تک تبدیلی یا اثر کے لیے بیان کردہ اہداف کی تکمیل کرتا ہے؟

☆ کیا شرکاء اور نصاب میں تبدیلیوں پر کوئی اثر موجود ہے؟

☆ کونسے اجزاء سب سے مؤثر ہیں اور کس اجزاء میں بہتری کی ضرورت ہے؟

☆ کیا پروگرام کے اخراجات کا ترتیب و تناسب نتیجے سے مطابقت رکھتا ہے؟

☆ کیا پروگرام کو برقرار رکھا جاسکتا ہے؟

☆ کیا پروگرام قابل عمل ہے؟ وغیرہ

تلخیصی احتساب پروگرام کے آخر میں نتائج اور متعلقہ عمل، حکمت عملی اور سرگرمیوں کے بارے میں معلومات فراہم کرتی ہے۔ عام طور پر فیصلہ سازی کے لیے اس قسم کی تشخیص کی ضرورت پڑتی ہے۔ اختتامی احتساب کرتے وقت غیر متوقع نتائج پر غور کرنا ضروری ہے۔ یہ ایسے نتائج ہیں جو اعداد و شمار کے ذخیرہ یا اعداد و شمار کے تجزیے کے دوران ابھرتے ہیں اور جن کی کبھی بھی توقع نہیں کی جاتی۔ مثال کے طور پر استاذ کے لیے پیشہ وارانہ ترقی کی سرگرمیوں کو فراہم کرنے والا پروگرام۔ اس احتسابی عمل کا مقصد اس حد کا اندازہ کرنا ہے جسے شرکاء اسکولوں میں اپنے ہم منصب ساتھیوں کے ساتھ شریک کریں جس سے ان کی پیشہ وارانہ صلاحیت فروغ پائے۔

تلخیصی احتساب کے فوائد (Advantages of Summative Evaluation)

تلخیصی احتساب کے مندرجہ ذیل فوائد ہیں۔

☆ طلباء کے فہم کا اندازہ لگانا:

تلخیصی احتساب میں چند حکمت عملی کے ذریعے یہ جاننے کی کوشش کی جاتی ہے کہ پڑھائے گئے مواد کو بچوں نے کس حد تک سمجھا ہے۔

☆ ماحصل کا تعین کرنا:

تلخیصی احتساب کے ذریعے تعلیمی ماحصل کو ناپا جاتا ہے۔ اس کے ذریعے تعلیمی پروگراموں کے مؤثر ہونے کا بھی اندازہ لگایا جاتا ہے۔ اس عمل کو مقاصد اور اہداف کے بہتری کے حد کی پیمائش کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔

☆ موقع فراہم کرنا:

تلخیصی احتساب طلباء میں حوصلہ افزائی کرتا ہے اور انہیں مزید سیکھنے کے لیے ترغیب دیتا ہے۔

☆ انفرادیت کو فروغ دینا:

تلخیصی احتساب اس عنصر کو پروان چڑھانے میں مدد کرتا ہے جس سے طلباء کے اعتماد کو فروغ ملتا ہے اور اس کا فائدہ ادارے کو پہنچتا ہے۔

☆ کمزور علاقوں کی نشاندہی کرنا:

اس احتسابی عمل کی مدد سے کمزور علاقوں کا پتہ چلتا ہے اور اس سے نتائج کو بہتر بنانے کے لیے متبادل طریقوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔

☆ ٹریننگ کی کامیابی کا تعین کرنا:

اس قسم کے احتسابی عمل سے تربیتی پروگرام میں استعمال ہونے والے تربیتی طریقوں کی کامیابی کا تعین کیا جاتا ہے۔

☆ تشخیصی آلہ کی حیثیت:

پروگرام کی افادیت کا اندازہ لگانے کے لیے اسے آلہ کی حیثیت سے استعمال کیا جاتا ہے اور اس سے حاصل شدہ فیڈ بیک کی مدد سے پروگرام کو بہتر کرنے میں مدد ملتا ہے۔ یہ پروگرام کو ترتیب دینے میں بھی مدد کرتا ہے اور پروگرام میں طلباء کی شمولیت کو بھی یقینی بنانے میں

اہم رول ادا کرتا ہے۔

☆ تدریسی ڈیزائن (Teaching Design)

تدریس کے دوران اسے ایک احتسابی تکنیک کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔

☆ بہتر تفہیم کی فراہمی: (Providing of Better Understanding)

تخلیسی احتساب کے ذریعہ درس و تدریس کو بہتر بنانے میں Qualitative and Quatitative طریقوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سے درس و تدریس کی بنیادی باتوں کو سمجھنے کا موقع دستیاب ہوتا ہے اور تدریسی عمل کو مزید بہتر بنانے میں مدد ملتی ہے۔

☆ منصوبی فوائد (Plan Benefits)

تخلیسی احتساب سے یہ پتہ چلتا ہے کہ طے شدہ مقاصد میں کس حد تک کامیابی حاصل ہوئی۔ اس تشخیص کے ذریعہ پروگرام کی تبدیلیوں کو بھی جاننے اور سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ پروگرام کے دوران مختلف مراحل میں کون سی چیز کس حد تک کارگر ہے اس کا بھی براہ راست پتہ چلتا ہے۔ اس تشخیصی عمل کے ذریعہ حاصل شدہ معلومات کی مدد سے مستقبل کے پروجیکٹ کے ڈیزائن کو درست اور اس پر عمل درآمد کرنے میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔

تخلیسی احتساب کے نقصانات (Disadvantages of Summative Assessment)

تخلیسی احتساب کے مندرجہ ذیل نقصانات ہیں۔

☆ عمل درآمد اور ترمیم میں تاخیر: (Delay in Implementation and Editing)

تخلیسی احتساب کا پروگرام کے آخر میں استعمال، پروگرام کے نتائج پر منفی اثر ڈالتا ہے۔ چونکہ اس کا استعمال پروگرام کے اختتام پر ہوتا ہے اس لیے نتیجے کی گڑبڑی کو بعد میں سدھارنے میں دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

خلل پذیر: اس احتسابی عمل کا پروگرام کے آخر میں استعمال تمام شرکاء میں تجسس پیدا کرتا ہے اور تمام افراد شروع سے ہی نتیجے کے انتظار میں رہتے ہیں۔ جس سے پروگرام میں خلل پیدا ہوتی ہے اور ان میں ایک طرح کا ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے۔

لا علاج عمل: اختتامی احتساب میں رکاوٹوں یا چیلنجز (Challenges) کی نشاندہی کرنے کے لیے شروعاتی دور میں کچھ بھی نہیں کیا جاتا۔ پروگرام کے اختتام پر یہ سنگین شکل اختیار کر لیتا ہے جو بہت نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔

طلباء پر منفی اثر: تخلیسی احتساب کے نتیجے کا Low Achieving طلباء پر منفی اثر پڑتا ہے۔ طلباء کے لیے بار بار علمی آزمائش اس کے خود اعتمادی کو کم کرتی ہے۔

تدریس اور نصاب کے ساتھ مسائل:

اساتذہ کا ذہن جانچ کی طرف مرکوز ہوتا ہے جس سے وہ نصاب اور مواد سے منحرف ہو جاتے ہیں۔ اس سے تدریسی تکنیک بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ اس قسم کے احتسابی عمل میں طلباء کو اظہار کے مواقع نہیں ملتے اور غیر مقامی باشندوں کے لیے زبان پر دسترس کرنا ہونا ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے اور بہت ساری چیزوں کو جاننے اور سمجھنے کے باوجود وہ اس کا اظہار نہیں کر سکتے۔

1.4.3 معیاری حوالہ جاتی احتساب اور اصولی حوالہ جاتی احتساب

(Norm - Referenced Test & Criterion - Referenced Test)

معیاری حوالہ جاتی پیمائش کی اصل ہمیں Magers کی تحریر مقاصد میں ملتی ہے۔ اس نے اساتذہ سے کہا تھا کہ تدریسی اکتساب کا نتیجہ بتاتے وقت قابل قبول کارکردگی کا ایک معیار ضرور طے کر لیں۔ وہ متعلم کی تعلیمی مہارت یا دسترس کی ایک سطح کا یا یوں کہیے کہ متعلم کی کارکردگی کے ایک مطلوبہ اسٹینڈرڈ کا خواہش مند تھا۔ اس طرح یہاں نارم ریفرنسڈ پیمائش (Norm Reference Test) کے برخلاف کرائی ٹیرین ریفرنسڈ پیمائش (Criterion Reference Test) میں ایک طے شدہ کرائی ٹیرین (معیار) کے حوالے سے انفرادی کارکردگی کا تذکرہ ہوگا۔ اس کرائی ٹیرین (معیار) کی تعریف پہلے ہی بیان کی جا چکی ہے۔ اس قسم کی پیمائش کو کرائی ٹیرین ریفرنسڈ پیمائش کہا جاتا ہے۔ یہ پیمائش طے شدہ کرائی ٹیرین طرز عمل (Criterion Behaviour) کے حوالے سے متعلم کی حیثیت کو طے کرتی ہے۔ یہ پیمائش ٹسٹ کے رزلٹ کی ان طے شدہ اکتسابی نتائج (Learning Outcomes) کے اعتبار سے تشریح کرتی ہے جن کی حیثیت ریفرنسڈ (Referent) یا کرائی ٹیرین (Criterion) کی ہوتی ہے۔ کرائی ٹیرین ریفرنسڈ ٹسٹ کی کامیابی کارکردگی کی طے شدہ سطحوں کے بیان میں پوشیدہ ہے۔ کامیابی کی ان سطحوں کو تدریسی مقاصد کا نام دیا جاسکتا ہے۔ گلینر (1963-Glaser) کے مطابق کارکردگی کی پیمائش تصور کے پیچھے حصول معلومات کے اس تسلسل کا خیال کارفرما ہے جو عدم واقفیت سے لے کر بہترین اکتسابی کارکردگی تک کے پورے دور کو محیط ہے۔ متعلم کی تعلیمی کامیابیوں کا فیصلہ اور اس حوالے سے اس کی حیثیت کا تعین معلومات کے تسلسل کے پس منظر میں ہی کیا جاتا ہے۔ اصولی حوالہ جاتی (Norm Referenced) پیمائش کے برخلاف ہر تعلیمی مقصد کے حصول کے لیے حداقل قابل قبول کارکردگی کی معیاری سطح کی صراحت پیشگی طور پر کرائی ٹیرین ریفرنسڈ ٹسٹ میں ہی کرائی جاتی ہے۔

ابتدائی مرحلے میں جبکہ بنیادی مہارتوں اور بنیادی تصورات کے اکتساب کا زمانہ ہوتا ہے کرائی ٹیرین ریفرنسڈ پیمائش ضروری ہوتی ہے تاکہ سینڈری مرحلے کی اکتساب کے لیے مناسب بنیاد پڑ سکے۔ اس پیمائش میں متعلم کا دوسرے طلباء سے غیر منصفانہ موازنہ نہیں کیا جاتا۔ سب سے بڑی مشکل مہارتوں یا تصورات کی پیچیدگی کے شانہ بہ شانہ کارکردگی کے تسلسل کو برقرار رکھنا ہے۔ اکتساب کی حداقل سطح (Minimum Level of Learning) جسے مختصراً MLL کہا جاتا ہے اور اکتسابی مہارت (Mastery Learning) یا ML کا تصور اسی خیال کی دین ہے۔ این سی ای آر ٹی (NCERT) اور وزارت فروغ و مسائل انسانی (حکومت ہند) نے پرائمری کلاسوں کے لیے پہلے ہی MLL کو تیار کر لیا ہے جبکہ سینڈری سطح کے لیے کامل چل رہا ہے۔ کسی بھی مخصوص مرحلے میں طلباء کے تعین قدر (Evaluation) کے لیے MLL ایک کرائی ٹیر (معیار) کا کام کرتا ہے۔ درحقیقت نارم ریفرنسڈ اور کرائی ٹیرین ریفرنسڈ دونوں ہی پیمائشوں کا تدریس و اکتساب کے عمل میں اہم مقام ہے۔

کوئی بھی احتسابی عمل جس سے طلباء کی مہارت پر مبنی کارکردگی کو جانچا پرکھا جاتا ہے وہ معیاری حوالہ جاتی احتساب کہلاتا ہے۔ اس کے ذریعے ہم اس بات کا پتہ لگاتے ہیں کہ احتساب کے وقت کون سی چیزوں کو جانتے ہیں اور کیا کیا نہیں جانتے۔ اس میں ایک طالب علم کی کارکردگی کا دوسرے طلباء کی کارکردگی سے موازنہ نہیں کیا جاتا۔ معیاری حوالہ جاتی احتساب میں ایسے ایٹم کو شامل کیا جاتا ہے جو براہ راست اختتامی کارکردگی کی پیمائش پر اثر پذیر ہوتے ہیں۔ معیاری حوالہ جاتی احتساب کا مقصد طلباء کے ان مخصوص مہارت اور معلومات کا پتہ لگانا ہے جس کا اظہار وہ مناسب طریقہ سے کر سکتے ہیں۔ اس معلومات کی مدد سے طلباء کے لیے انفرادی اور گروہی تدریسی اشیاء کی منصوبہ بندی اور اسے ترتیب دینے میں مدد ملتی

ہے۔ معیاری حوالہ جاتی احتساب کے مختلف طریقے مندرجہ ذیل ہیں۔

- ☆ چیک لسٹ
- ☆ ریٹنگ اسکیل
- ☆ گریڈ
- ☆ روبرس

معیاری حوالہ جاتی احتساب کی مثال:

☆ ڈرائیونگ ٹسٹ:

ڈرائیونگ ٹسٹ کے ذریعے یہ تعین کیا جاتا ہے کہ ڈرائیور نے سڑک پر گاڑی چلانے کی ساری مہارتوں کو سیکھا ہے یا نہیں؟

☆ یونٹ کا اختتامی امتحان:

اس قسم کے امتحانات سے اس بات کا پتہ لگایا جاتا ہے کہ بچوں نے طے شدہ نصاب کے سارے مواد کو صحیح طریقہ سے سیکھا ہے یا نہیں۔ تمام طالب علم کی کردگی کا اندازہ اس کے ذریعے پیش کردہ مواد کے تجزیہ کے بعد لگایا جاتا ہے۔

اصولی حوالہ جاتی جانچ کا مطلب یہ ہے کہ اس پیمائش کا عمل کسی نارم (Norm)، گروپ یا کسی مخصوص کارکردگی کی پیمائش سے وابستہ اور متعلق ہے۔ یہ کسی خاص گروپ کی کارکردگی کے حوالے سے ٹسٹ کے نتائج کو بتاتا ہے۔ یہ گروپ ”نارم (Norm) گروپ“ ہے کیونکہ فیصلے کرنے کے معاملے میں اس کی حیثیت نارم کے ریفرنٹ (Referent) کی ہے۔ اس میں ٹسٹ کے اسکورس کی نہ تو فرد کے حوالے سے تشریح ہوتی ہے نہ ہی فرد کی کارکردگی کے معیار کے حوالے سے اور نہ ہی کامیابی کی کسی ایسی سطح کے حوالے سے جو پہلے سے طے شدہ طور پر قابل قبول ہو۔ یہ پیمائش کسی ایک کلاس یا کسی نارم گروپ کے واسطے سے کی جاتی ہے کیونکہ اس کا کام انفرادی پیمائش (Measurement) کو کسی نارم گروپ (کلاس) کے ساتھ جوڑنا ہے۔ اس کا مقصد جوابات کا اختلاف معلوم کرنا ہے یعنی یہ دیکھنا ہے کہ ایک فرد (Individual) کے جوابات اس گروپ کے جوابات سے کس حد تک مختلف ہیں جس سے وہ تعلق رکھتا ہے یا پھر جس سے وہ تعلق نہیں رکھتا۔

ہمارے تقریباً تمام کلاس روم ٹسٹ، پبلک، امتحانات اور معیاری ٹسٹ نارم ریفرنسڈ ٹسٹ (Norm Referenced Test) ہی ہیں کیونکہ یہ سب کسی ایک کلاس کے نتائج ہی کی تشریح و تعبیر کرتے ہیں اور ان کے سب فیصلے (Judgements) کلاس کے حوالے سے ہی کیے جاتے ہیں۔ اسی کلاس کو ایک ٹائپ (Type) کا نام بھی دے دیا جاتا ہے۔ کلاس کا سب سے ذہین لڑکا کون ہے؟ فرسٹ کون آیا؟ سب سے کم نمبر کس کے آئے؟ کیا کلاس میں وہ پانچ فیصد طلبا سے بہتر ہے؟ یہ اور اسی قسم کے سوالات میں جو نارم ریفرنسڈ (Norm Referenced) فیصلوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس قسم کے فیصلوں (Judgements) میں کسی گروپ کی کارکردگی کو ایک ہی ٹسٹ کے ریفرنٹ (Referent) کی حیثیت سے دیکھا جاتا ہے۔ ہم یکساں اطلاعات کے بارے میں کسی ایک طالب علم کی کارکردگی کا دوسروں کی کارکردگی سے موازنہ کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے سلیکشن کے سلسلہ میں جتنے فیصلے ہوتے ہیں وہ سب نارم ریفرنسڈ (Norm Referenced) بنیاد پر ہی ہوتے ہیں۔ پیشین گوئیاں یا (Placement) کے فیصلے اسی قسم کے فیصلہ کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ نارم ریفرنسڈ فیصلہ کی بنیاد پر جو بڑے پیمانہ پر بھرتی ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ جن

لوگوں کی پیمائش کی جارہی ہے یا جو افراد کسی گروپ یا نارم Norm کو تشکیل دے رہے ہیں وہ سب ایک جیسے ہیں۔ جن حالات کے تحت نارم ریفرنٹ (Norm Referent) حاصل ہوا ہے اور جن حالات کے تحت اصل معلومات حاصل ہوئی ہیں ان کو بھی یکساں (Similar) مانا جاتا ہے۔ ایک دوسرا معیار یہ بھی ہے کہ ان نارم ریفرنٹس میں جو ریفرنٹس (Referent) استعمال کیا جاتا ہے اس میں کم سے کم غلطی ہونی چاہیے تاکہ فیصلہ قابل اعتبار اور بالکل درست ہوں۔ جب تک استعمال کیا گیا ریفرنٹ (Referent) بالکل تازہ ترین نہ ہوگا اس وقت تک فرد کی کارکردگی کا موازنہ کسی گروپ سے (جس کا ریفرنٹ پرانا ہو) بیکار ہوگا اور غلط رہنمائی کرے گا اور نتائج کی غلط تشریح کرے گا۔ اس طرح نارم ریفرنٹس پیمائش یکساں افراد کے ایک ایسے تازہ ترین اور لائق اعتبار ریفرنٹ (Norm Group) کو مستلزم ہے جو ایک ہی جیسے حالات سے حاصل ہوا ہو۔ لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ احتسابی عمل ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے طلباء کے حاصل کو پورے گروپ کے مقابلے میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس عمل کے ذریعے طلباء کی تعلیمی حصولیابی اور اس کا تعین قدر دوسرے طلباء کی حصولیابی اور اس کے اقدار کے مقابلہ میں کیا جاتا ہے۔ اس احتسابی عمل میں یکساں ٹسٹ اور ہم عمر طلباء کے درمیان ان کی کارکردگی کا موازنہ کیا جاتا ہے۔

نارم ریفرنٹس اسسمنٹ کی چند مثالیں پیش خدمت ہیں۔

☆ بلوغت چارٹ:

اس چارٹ کے ذریعے بچوں کی نمو کا اندازہ لگایا جاتا ہے اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ دوسرے ہم عمر بچوں کے مقابلے میں اس کی نشوونما کیسی ہے۔ گروتھ چارٹ کے ذریعے بچوں کی لمبائی، وزن، جسامت اور جسامت واؤنچائی (Body Mass Index) کا ہم عمر اور ہم جنس بچوں سے موازنہ کیا جاتا ہے۔

☆ سیٹ:

نارم ریفرنٹس اسسمنٹ کی یہ ایک ایسی مثال ہے جس کے ذریعے کسی بھی اسکول کے طلباء کی تعلیمی لیاقت اور اہلیت کا اندازہ دوسرے اسکولوں کے طلباء کے مقابلہ میں کیا جاتا ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس موازنہ میں اسکولوں کی سطح اور بچوں کی عمر یکساں ہوں۔

1.4.4 پیئر اسسمنٹ (Peer Assessment)

پیئر اسسمنٹ کے ذریعے ہم عمر طلباء کے کاموں کو طے شدہ معیارات کی مدد سے جانچا جاتا ہے۔ اس سے وہ اپنے دوسرے ساتھیوں اور ہم جماعت طلباء کو براہ راست فیڈ بیک مہیا کرتے ہیں۔ اس عمل کو کبھی کبھی پیئر ریویو (Peer Review) بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا موثر طریقہ ہے جس کے ذریعے طلباء کو احتساب کے مواقع فراہم ہوتے ہیں اور جس کی مدد سے وہ تشخص کے معیارات کو جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ اس طرح کے عملی موقعوں سے طلباء میں رغبت اور دلچسپی پیدا ہوتی ہے۔ اور اکتسابی کاموں کی پیچیدگیوں اور باریکیوں کا براہ راست مشاہدہ کرتے ہیں۔ ان تمام عملیات کا اثر یہ ہوتا ہے کہ طلباء تدریسی عمل میں دل جمعی، دلجوئی اور گہرائی سے مواد کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اپنے فہم کو سنوارتے ہیں اور اپنے ہم عمر طلباء کی دوسری خوبیوں کو اپنے آپ میں شامل کرتے ہیں اور اپنی کمیوں کو سدھارتے ہیں۔ اس کا ما حاصل یہ ہوتا ہے کہ یہ اسسمنٹ کے اس طریقہ کا بچوں کی شخصیت سازی میں بھرپور استعمال ہو پاتا ہے۔

پیر اسمنٹ کے فوائد (Advantages of Peer Assessments)

پیر اسمنٹ کے مندرجہ ذیل فوائد ہیں۔

- ☆ یہ طالب علم کی شمولیت اور ذمہ داری کو فروغ دیتا ہے۔
- ☆ گروہی کاموں میں ان کے کردار اور شراکت کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔
- ☆ طلباء کے فیصلہ کی مہارت اور اس کی ترقی پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔
- ☆ طلباء کا احتسابی عمل میں شمولیت اور ان کے فیڈ بیک کا دوسرے طلباء پر مثبت اثر ڈالتا ہے۔
- ☆ یہ ایک قسم کا منصفانہ احتسابی عمل ہے جو طلباء کی کارکردگی پر منحصر کرتا ہے اور طلباء ایک دوسرے کی کارکردگی کا براہ راست جانچ کرتے ہیں۔

پیر اسمنٹ کے نقصانات (Disadvantages of Peer Assessments)

پیر اسمنٹ کے کچھ نقصانات حسب ذیل ہیں:

- ☆ اساتذہ پر کام کے بوجھ میں اضافہ کرتا ہے۔
- ☆ طلباء دوسرے طالب علم کے زیر اثر اس کو خوش کرنے کے لیے غیر مناسب اور نامعقول گریڈ کا استعمال کر سکتا ہے۔
- ☆ طلباء اپنے ہم جماعت طالب علم کو خوش کرنے کے لیے یکساں نشانات دے سکتے ہیں۔
- ☆ طلباء میں تربیت کی کمی، اس احتسابی عمل کو مشکوک بناتا ہے۔
- ☆ طلباء اپنے ساتھی طالب علم کے بارے میں ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرنے میں تذبذب کا شکار ہو سکتے ہیں۔

1.4.5 مسلسل اور جامع تعین قدر (Continuous and Comprehensive Evaluation)

مسلسل اور جامع تعین قدر اسکول پر مبنی ایک ایسا اقدامی عمل ہے جو طلباء کی ترقی پر مشتمل ہوتا ہے اور ان کے نشوونما کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے۔ اس ترقیاتی احتسابی عمل کے دو مقاصد ہیں۔ اول طلباء کا مسلسل اصلاح اور دوم شناختی پہلوؤں کی تشخیص اور رویوں کی تبدیلیوں کا مشاہدہ۔ اس اسکیم میں 'مسلسل' سے مراد طلباء کے گروتھ اور ڈیولپمنٹ کا وہ پہلو ہے جو پورے تعلیمی سال کے بچنگ اور لرننگ پر مشتمل ہوتا ہے اور جسے ایک مسلسل طریقہ تشخیص کی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ لہذا تشخیص میں تسلسل، لرننگ گیپ کی پہچان، اصلاحی طریقہ کار کا استعمال اس عمل کو تقویت دیتی ہے۔ دوسری جانب 'جامعیت' سے مراد طلباء کے اسکالٹک اور نان اسکالٹک پہلوؤں کے نمونہ نشوونما شامل ہوتے ہیں۔ تعین قدر کا یہ پہلو طلباء کے تعلیمی اور غیر تعلیمی پہلوؤں کا مسلسل احاطہ کرتی ہے اور تدریسی عمل کو کارگرد اور مستحکم بنانے میں اہم رول ادا کرتی ہے۔

طلباء کے نمونہ نشوونما کے احاطے کے لیے سنٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن نے سی سی ای کو نافذ کیا۔ جس کا واحد مقصد طلباء کے تمام ترقیاتی پہلوؤں کا پورے سال تعین کرنا ہے۔ اس تشخیصی عمل میں اسکالٹک مضامین کے علاوہ غیر اسکالٹک مضامین مثلاً کھیل کود، آرٹ، موسیقی،

رقص، ڈرامہ اور دیگر موضوعات شامل ہوتے ہیں۔ اسکالٹک (Scholastic) مضامین کے اقدار کا دو طریقوں سے تعین کیا جاتا ہے۔
 تشکیل جانچ اور تلخیصی جانچ: تشکیل جانچ میں عموماً درجہ جماعت میں منظم کئے جانے والے لٹٹ، گھر کا کام، پروجیکٹ، تفویضات وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ جبکہ تلخیصی جانچ سے پورے سال کی کارکردگی کو جاننے کی کوشش کی جاتی ہے جو تعلیمی سال کے آخر میں انجام پاتی ہے۔ مسلسل اور جامع تعین قدر کا تفصیلی خاکہ پیش ہے۔

	Term 1			Term 2		
	FA1	FA2	SA1	FA3	FA4	SA2
Weightage	10%	10%	30%	10%	10%	30%
Term Weightage	FA1+FA2+SA1=50%			FA3+FA4+SA2=50%		

Total : Formative Assessment (FA) = FA1+FA2+FA3=FA4= 40 %

Summative Assessment (SA) = SA1 + SA2= 60%

اسکالٹک اسسمنٹ گریڈ کو عمومی طور پر 9 پوائنٹ والے گریڈنگ اسکیل سے ناپا جاتا ہے۔

مسلسل اور جامع تعین قدر کے مقاصد:

- ☆ ذہنی، جذباتی اور حرکیاتی مہارت کو فروغ دینا۔
- ☆ فہم کے عمل کو فروغ دینا اور زبانی رٹنے کی عادت کو ختم کرنا
- ☆ تعین قدر کے عمل کو درس و تدریس کا لازمی جز بنانا۔
- ☆ تعین قدر کی مدد سے طلباء کی علمی ماحصل کو بڑھانا۔
- ☆ علمی خلاء کو پر کرنا۔
- ☆ اور تدریسی عمل میں بہتری لانا۔
- ☆ تعین قدر کی مدد سے طلباء کی کارکردگی کو معیاری بنانا۔

1.4.6 گریڈنگ سسٹم (Grading System)

گریڈنگ سسٹم ایک ایسا طریقہ کار ہے جو بچوں کے تعلیمی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور جو مکمل طور پر پوائنٹس پر مبنی ہوتا ہے۔ گریڈنگ سسٹم کسی طرح کی بھی دانشورانہ قیاس آرائی میں ملوث ہونے کا موقع نہیں دیتی۔ یہ طریقہ دنیا بھر کے بہت سے اسکولوں میں وسیع پیمانے پر استعمال میں لایا جاتا ہے اور اسے مضبوط اور قابل عمل طریقے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ آج کل کئی قسم کے گریڈنگ سسٹم موجود ہیں۔ مثلاً حروف کے ذریعے گریڈ کو تفویض کرنا (A, B, C, D, & F) رینج کی شکل میں گریڈ کو ظاہر کرنا (1 سے 6 تک)، فیصد کی شکل میں اظہار کرنا، کامیاب اور ناکامیاب کی اصطلاح کا استعمال اور دیگر مختلف طریقوں کے گریڈنگ پوری دنیا میں رائج ہے۔ گریڈنگ نظام کے بارے میں

مختلف دانشوروں کی مختلف رائے ہے، کچھ اس کے حق میں ہے تو کچھ اس کی مخالفت میں۔

گریڈنگ سسٹم کے فوائد (Advantages of Grading System)

یہ طلباء کے اوپر سے تاؤ کو کم کرتا ہے۔ طلباء کی خوبیوں اور خامیوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ درجہ جماعت کے کام میں آسانی پیدا کرتا ہے۔

گریڈنگ سسٹم کے نقصانات (Disadvantages of Grading System)

- ☆ طلباء میں مقابلے کے جذبہ کو پیدا نہیں کرتا۔
- ☆ طلباء کے کارکردگی کی صحیح نمائندگی نہیں کرتا۔
- ☆ اسکورنگ کی صحیح ترجمانی نہیں کرتا۔
- ☆ طلباء میں پڑھنے پڑھانے کے عمل میں رغبت پیدا نہیں کرتا۔

اپنی معلومات کی جانچ (Check your progress)

1- گریڈنگ سے کیا مراد ہے؟

2- گریڈنگ کے فوائد اور نقصانات کو بیان کیجیے۔

1.5 اکتساب کا احتساب اور احتساب برائے اکتساب

(Assessment of Learning and Assessment of Learning)

اکتساب کا احتساب (Assessment of Learning)

- ☆ یہ والدین، دوسرے محققین طلباء اور بیرونی گروہوں پر رسائی حاصل کرنے کے لیے ثبوت فراہم کرنے کا ایک ڈیزائن ہے۔
- ☆ اکتساب کا احتساب مستقبل کے سیکھنے کے اہداف اور راستے کی منصوبہ بندی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔
- ☆ والدین، محققین، طلباء خود اور دوسرے افراد کو تعلیمی ماحصل کا ثبوت مہیا کرتا ہے۔
- ☆ تمام ناظرین میں شفاف تفسیر فراہم کرتا ہے۔
- ☆ اساتذہ کی ذمہ داریوں میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ طلباء کے تعلیمی معیارات کو ایمانداری سے پیش کرے اور یہ پیش کش شواہدات پر مبنی ہونا چاہیے۔

- ☆ مؤثر اکتسابی سرگرمیوں کو پیش کرتے وقت اساتذہ کو مندرجہ ذیل باتوں کو دھیان میں رکھنا چاہیے۔
- ☆ مطلوب اکتساب کی صحیح اور جامع وضاحت۔
- ☆ طلباء کی صلاحیت اور مہارت کی ترجمانی کا صاف شفاف مظاہرہ۔
- ☆ یکساں نتائج کا اندازہ کرنے کے لیے متبادل میکانیزم کا تعین۔
- ☆ تشریح کے لیے شفاف نقطہ نظر۔
- ☆ تشخیص کے عمل کی وضاحت۔
- ☆ فیصلہ میں اتفاق رائے پیدا کرنے کی حکمت عملی۔

اختساب برائے اکتساب (Assessment for Learning)

- اکتساب کے لیے اختساب میں تشخیص کی سمت اور رجحان تلخیصی جانچ کے بجائے تشکیلی جانچ کی طرف ہوتی ہے۔ اکتساب کے لیے اختساب کے عمل کو درس و تدریس کے دوران کئی مرتبہ نافذ کیا جاتا ہے۔ اس سے طلباء کو یہ سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے کہ اسے کیا کرنا ہے اور اسے کیا توقعات ہیں۔ اکتساب کے لیے اختساب میں فیڈ بیک کی مدد سے تعلیمی کارکردگی کو بہتر بنایا جاتا ہے۔ اس اختسابی عمل کو استاد ایک آلہ کی طرح استعمال کرتے ہیں جس کی مدد سے طلباء کی اکتسابی کمیوں کو جانا جاتا ہے۔ اکتسابی خلاء کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ ان تمام معلومات کی مدد سے طلباء کو آگے بڑھنے میں اور اکتسابی عمل کو بہتر بنانے میں مدد ملتی ہے۔
- اکتساب کے لیے اختساب کا عمل سیکھنے کا ایک ایسا نقطہ نظر ہے
- ☆ جس سے طلباء کو اکتسابی طور پر مزید بہتر بننے کا موقع ملتا ہے۔
 - ☆ اس میں رسمی اور غیر رسمی سرگرمیاں شامل ہوتی ہیں جس سے مستقبل کی منصوبہ بندی میں مدد ملتی ہے۔
 - ☆ اس سمٹ فارلرننگ میں واضح اہداف شامل ہوتے ہیں۔
 - ☆ یہ مؤثر فیڈ بیک فراہم کرتا ہے جو طلباء کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور تعلیمی عمل میں بہتری لاتا ہے۔
 - ☆ اس سے طلباء میں رغبت پیدا ہوتی ہے۔
 - ☆ اس کے ذریعہ سے طلباء کو علمی طور پر بہتر بنانے میں مدد ملتی ہے۔
 - ☆ اس کے ذریعہ خود تشخیص اور ہم آہنگ کی تشخیص کو فروغ ملتا ہے۔

اپنی معلومات کی جانچ (Check your progress)

- 1- اکتساب کے اختساب سے کیا مراد ہے؟

2- اکتساب کے احتساب اور اکتساب کے لیے احتساب میں فرق واضح کیجیے۔

1.6 یاد رکھنے کے نکات (Points to be Remembered)

- (1) احتساب ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے اساتذہ اپنی تدریسی کارکردگی اور طلباء کی اکتسابی حصولیابی پر مبنی ڈاٹا یا معلومات جمع کرتے ہیں اور اس جمع کردہ ڈاٹا کے تجزیے سے طلباء کی اکتسابی تحصیل کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔
- (2) احتساب کے سلسلے میں مختلف اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں جن میں سے اہم اصطلاحیں اس طرح ہیں۔
- جانچ
 - امتحان
 - احتساب
 - پیمائش
 - تعیین قدر
- (3) احتساب کی زمرہ بندی مختلف طریقوں سے کی جاتی ہے جن میں اہم اس طرح ہیں۔
- تشکیلی و تشخیصی احتساب
 - معیاری حوالہ جاتی و اصولی حوالہ جاتی احتساب
 - پیراسسمنٹ
 - مسلل اور جامع تعین قدر
- (4) گریڈنگ سسٹم ایک ایسا طریقہ کار ہے جو بچوں کی تعلیمی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور مکمل طور پر پوائنٹس پر مبنی ہوتا ہے۔

1.7 فرہنگ (Glossary)

تشکیلی و تشخیصی احتساب	:	Summative Assessment
اکتسابی نتائج	:	Learning Outcomes
گریڈنگ سسٹم ایک ایسا طریقہ کار ہے جو بچوں کے تعلیمی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے	:	Grading System
مسلل اور جامع تعین قدر اسکول پر مبنی ایک ایسا اقداری عمل ہے جو طلباء کی ترقی پر مشتمل ہوتا ہے اور ان کے نشوونما کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے۔	:	Continuous and Comprehensive Evaluation

تشکیلی احتساب ایک ایسا عمل ہے جو پروگرام کے دوران عمل پذیر ہوتا ہے اور پروگرام کے اختتام تک جاری رہتا ہے۔	:	Formative Assessment
اس جانچ کے ذریعہ یہ جاننے کی کوشش کی جاتی ہے کہ طلباء کن چیزوں سے واقف ہیں اور کس سے نہیں	:	Diagnostic Test
یک مقررہ مدت کی پڑھائی کے بعد طلباء کی تعلیمی کامیابیوں کو وقفہ جاتی ٹیسٹوں کے ذریعے اندازہ لگایا جاتا ہے یہ مدت ایک مہینہ یا دو مہینہ کی ہوتی ہے۔	:	Periodic Tests
پیمائش	:	Measurement

1.8 اکائی کے اختتام کی سرگرمیاں (Unit End Exercises)

- معروضی جوابات کے حامل سوالات
- 1- تخلیسی جانچ کے مقاصد میں شامل ہیں:
- (1) قابلیت کا اندازہ لگانا
- (2) افادیت کا اندازہ لگانا
- (3) دونوں
- (4) ان میں سے کوئی نہیں
- 2- احتساب کے فوائد۔۔۔۔۔
- (1) علم کو فروغ
- (2) مستقبل کی منصوبہ بندی
- (3) دونوں کامیاب نتائج کی حصولیابی
- (4) ان میں سے کوئی نہیں
- 3- امتحان کے کتنے اقسام ہیں؟
- (1) 2
- (2) 5
- (3) 3
- (4) ان میں سے کون جانچ کے اقسام نہیں ہیں؟
- (1) تشکیلی جانچ
- (2) بیچ مارک
- (3) Feedback
- (4) انٹرویو
- 5- تشکیلی میں احتساب میں کس طرح کے کام شامل ہیں؟
- (1) پروجیکٹ
- (2) انفرادی سرگرمیاں
- (3) دونوں
- (4) ان میں سے کوئی نہیں

مختصر جوابات کے حامل سوات

- 1- درج ذیل اصطلاحات کے معنی و مفہوم کو سمجھائیے؟
(الف) احتساب
(ب) تعیین قدر
- 2- تشکیل احتساب اور تلخیصی احتساب کے درمیان فرق واضح کیجیے۔
- 3- مسلسل جامع تعیین قدر کی خصوصیات کیا ہیں؟
- 4- اکتساب کا احتساب اور احتساب برائے اکتساب کے اصطلاحوں کی وضاحت کیجیے۔

طویل جوابات کے حامل سوالات

- 1- اسکولی سطح پر پیئر اسسمنٹ کیوں ضروری ہے؟
- 2- اکتساب کے احتساب اور اکتساب کے لیے احتساب میں فرق واضح کیجیے۔
- 3- گریڈنگ کے فوائد اور نقصانات کو بیان کیجیے۔

1.9 مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں (Suggested Books for Further Readings)

- (1) Ebel Robert, L. (1996). Measuring Educational Achivements, New Delhi.
- (2) Ground Laidye (1966). Measurement and Evaluation in Teaching McMellan Company, New Delhi.
- (3) Dave, P.N. (1970). Heirarehyin Comprative Learning, RIE.

اکائی 2۔ پالیسی پس منظر اور تعین قدر میں اصلاحات

(Policy Perspectives and Reforms in Evaluation)

اکائی کے اجزا

- 2.1 تمہید (Introduction)
- 2.2 مقاصد (Objectives)
- 2.3 امتحانی نظام میں اصلاحات: اہمیت و ضرورت (Reform in Examination System: Needs and importance)
- 2.4 سکندری ایجوکیشن کمیشن (1952-53) (Secndry Education Commission)
- 2.5 انڈین ایجوکیشن کمیشن (1964-66) (Indian Education Commission)
- 2.6 قومی پالیسی برائے تعلیم (1986) اور پروگرام برائے عمل 1992
- National Policy Of Education 1986 & Programme Of Action (POA)
- 2.7 قومی نصابی خاکہ (2005) اور امتحانی اصلاحات پرنیشنل فوکس پوزیشن پیپر
- (National Curriculam Framework 2005 & Developed for School Education and National Focus Group Position Pepar of Examination Reform)
- 2.8 امتحانی نظام میں اصلاحات اطلاع و ترسیلی ٹکنالوجی کا امتحانی نظام میں کردار
- (Reform in Examination System, Role of ICT in Examination System)
- 2.9 یاد رکھنے کے نکات (Points to be Remembered)
- 2.10 فرہنگ (Glossary)
- 2.11 اکائی کے اختتام کی سرگرمیاں (Unit-End Exercises)
- 2.12 مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں (Suggested Books for Further Readings)

2.1 تمہید (Introduction)

امتحانات اور تعین قدر تعلیمی عمل میں ایک کلیدی مقام رکھتے ہیں۔ جس طرح والدین اور اساتذہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً اپنے بچوں اور طلباء کی تعلیمی ترقی معلوم کرتے رہیں اور ان کی تعلیمی تحصیل کی جانچ کرتے رہیں اسی طرح سماج کے لیے یہ بھی یکساں طور پر ضروری ہے کہ وہ اس بات کا یقین حاصل کریں کہ اسکولوں میں بچوں کو معیاری تعلیم فراہم ہو رہی ہے یا نہیں؟ پس ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسکول کی کارکردگی کی جانچ تمام متعلقہ افراد جیسے طلباء، اساتذہ، والدین اور عوام سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ ان مقاصد کے حصول کا جائزہ عام طور پر امتحانات کے ذریعے کیا جاتا ہے۔

نظام تعلیم کو بہتر بنانے کے لیے سب سے پہلے نظام امتحانات میں اصلاحات کی ضرورت ہے۔ امتحانی اصلاحات کی اہمیت کا اندازہ رادھا کرشنن کمیشن (1948) کی رپورٹ کے اس ریمارک سے لگایا جاسکتا ہے۔ ”اگر ہمیں یونیورسٹی تعلیم میں کسی ایک واحد اصلاح کی تجویز رکھنا ہو تو وہ امتحانات کی ہونی چاہیے۔“

امتحانات کا مسئلہ تعلیم کا نہایت اہم مسئلہ ہے۔ موجودہ امتحانی نظام کے نقائص اور ان سے ہونے والے نتائج سے ہم سب بخوبی واقف ہیں۔ اگر ہم امتحانات سے جڑے مسائل کو حل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یقیناً تعلیم کی کچھ اور ہی شکل ہمارے سامنے ہوگی۔ اس اکائی میں ہم ہندوستان میں آزادی کے بعد قائم کیے گئے اہم کمیشنوں، کمیٹیوں اور پالیسیوں کی امتحانی اصلاحات کے ضمن میں پیش کی گئی سفارشات اور تجاویز کا جائزہ لیں گے۔

2.2 مقاصد (Objectives)

اس اکائی کے مطالعے کے بعد آپ اس قابل ہوں گے کہ:

- ☆ امتحانی نظام میں اصلاحات کی اہمیت و ضرورت کو سمجھ سکیں
- ☆ سکندری ایجوکیشن کمیشن اور کوٹھاری کمیشن کی امتحانی اصلاحات سے متعلق سفارشات سے واقف ہو سکیں۔ کن اصلاحات پر عمل کی بات کہی گئی ہے اس سے واقف ہو سکیں۔
- ☆ قومی نصابی ڈھانچہ (2005) کے اہم خدوخال سے واقف ہو سکیں۔
- ☆ نیشنل فوکس پوزیشن پیپر میں پیش کیے گئے اہم امور اور تجاویز سے واقف ہو سکیں۔
- ☆ امتحانی اصلاحات کے سلسلے میں اطلاعی و تریسی ٹکنالوجی (ICT) کے کردار کا جائزہ لے سکیں۔

2.3 امتحانی نظام میں اصلاحات: ضرورت و اہمیت

(Reform in Examination System: Needs and Importance)

جیسا کہ اوپر کہا گیا ہے امتحانات کسی بھی تعلیمی عمل کا ایک اہم ترین عنصر ہیں اور اگر ہمیں نظام تعلیم میں معیار اور بہتری لانا ہو تو سب سے

پہلے امتحانی نظام میں خاطر خواہ اصلاحات لانے پڑیں گے۔ اسی حقیقت کے پیش نظر آزاد ہندوستان میں مختلف کمیشنوں اور کمیٹیوں کا تقرر کیا گیا اور ان کی پیش کردہ تجاویز اور سفارشات کی روشنی میں اصلاحات لانے کی کوششیں کی گئیں۔

امتحانی اصلاحات کی اہمیت و ضرورت کو ہم درج ذیل نکات کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں:

- 1- ہندوستان میں اسکولی بورڈ امتحانات اکیسویں صدی کی نالچ سوسائٹی کے لیے زیادہ تر ناموزوں ہیں۔
- 2- امتحانات سماجی انصاف کے تقاضوں پر پورا نہیں اُترتے۔
- 3- پرچہ سوالات کم معیاری ہوتے ہیں وہ زیادہ تر طلباء کے رٹنے پر زور دیتے ہیں اور اعلیٰ درجے کی مہارتوں جیسے عقلیت (Reasoning)، تجزیہ (Analysis)، تخلیقیت (Creativity) اور فیصلہ سازی (Judgement) کی جانچ میں ناکام رہتے ہیں۔
- 4- یہ غیر لچک دار ہوتے ہیں اور ان میں مختلف قسم کے طلباء اور اکتسابی ماحول کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔
- 5- یہ طلباء میں تشویش اور تناؤ پیدا کرتے ہیں۔
- 6- امتحانات کے انعقاد میں کافی خامیاں پائی جاتی ہیں۔
- 7- گریڈنگ اور نمبرات دینے کے عمل میں شفافیت نہیں پائی جاتی۔

اپنی معلومات کی جانچ کیجیے (Check your progress)

1- کسی بھی تعلیمی نظام میں امتحانات کو کیوں اہمیت حاصل ہے؟

2- امتحانات کے انعقاد میں کون کون سی خامیاں پائی جاتی ہیں؟ لکھیں

2.4 سکندری ایجوکیشن کمیشن (Secondary Education Commission) (1952-53)

سکندری ایجوکیشن کمیشن کا تقرر حکومت ہند کے ریزولوشن کے ذریعے 23 ستمبر 1952 کو عمل میں آیا۔ مدراس یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر لکشمین سوامی مدالیار اس کمیشن کے صدر نشین مقرر کیے گئے۔

سکندری ایجوکیشن کمیشن نے ثانوی سطح کی تعلیم کے مختلف پہلوؤں اور امور کا تفصیل سے جائزہ لیا اور نہایت اہم تجاویز اور سفارشات حکومت ہند کو پیش کیں۔ نظام امتحانات سے جڑے مختلف امور پر بھی انہوں نے روشنی ڈالی اور ان کی بنیاد پر موجودہ نظام امتحان کو بہتر بنانے کے لیے تجاویز شامل کیں جن کا خلاصہ ذیل میں دیا جا رہا ہے۔

(i) خارجی امتحانات کی تعداد کو کم کیا جائے۔

- (ii) امتحانات میں معروضی سوالات (Objective Test) کو متعارف کرتے ہوئے اور سوالات کی اقسام میں تبدیلی لاتے ہوئے موضوعی قسم کے ٹسٹ (Essay Type Tests) کی موضوعیت (Subjectivity) کے عنصر کو کم سے کم کیا جائے۔
- (iii) طلباء کی ہمہ جہت ترقی کی جانچ اور ان کے مستقبل کا تعین کرنے کے لیے وقت بروقت انجام دی جانے والی سرگرمیوں اور مختلف شعبوں میں ان کی تحصیل کی نشاندہی کرنے کے لیے اسکول ریکارڈز کا مناسب انتظام رکھا جائے۔
- (iv) طلباء کے فائنل احتساب کے دوران داخلی ٹسٹوں اور اسکول ریکارڈز کو مناسب کریڈٹ دیا جائے۔
- (v) ثانوی اسکول کے کورس کے اختتام پر ایک پبلک امتحان رکھا جائے۔
- (vi) پبلک امتحان میں کامیاب ہونے پر دیے جانے والے سرٹیفکیٹ میں مختلف مضامین کے نتائج کے علاوہ پبلک امتحان میں شامل کیے جانے والے مضامین کے نتائج نیز اسکول ریکارڈز سے حاصل کردہ خلاصہ بھی شامل کیا جائے۔
- (vii) فائنل پبلک امتحان میں ناکام ہونے والے طلباء کے لیے کمپارٹمنٹل امتحان کا طریقہ بھی شروع کیا جائے۔
- (viii) اس کے علاوہ کمیشن پرچہ سوالات کے تیار کرنے کے ضمن میں رہنمایانہ تجاویز بھی پیش کیں جو اس طرح ہیں:
- 1- پرچہ سوالات میں موضوعی، مختصر اور معروضی سب طرح کے سوالات شامل کیے جائیں
 - 2- سوالات اس طرح ہوں کہ طلباء میں غور و فکر کی صلاحیت پروان چڑھے۔
 - 3- اختیاری سوالات شامل نہ کیے جائیں۔
 - 4- سوالات تمام نصاب پر محیط ہوں۔
 - 5- خارجی امتحان (External Examination) کے ساتھ Viva-Voce بھی رکھا جائے۔

سکنڈری ایجوکیشن کمیشن وہ واحد کمیشن تھا جس کی سفارشات پر عمل آوری کے لیے ایک خصوصی و خود مختار ادارہ قائم کیا گیا۔ اس ادارے کو آل انڈیا کونسل فار سکنڈری ایجوکیشن (AICSE) کا نام دیا گیا۔ یہ ادارہ چونکہ کمیشن کی تمام سفارشات پر بیک وقت کام نہیں کر سکتا تھا لہذا ترمیم کی بنیاد پر کام انجام دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ امتحانی اصلاحات کے میدان میں پہلے قدم کے طور پر AICSE نے ایک قومی سمینار برائے امتحانی اصلاحات کا انعقاد کیا۔ سمینار کی قراردادوں میں ایک قرارداد یہ بھی تھا کہ جملہ نشانات کا کم از کم 20% داخلی جانچ کے لیے مختص کیا جائے۔ لہذا کئی ریاستوں نے اس سفارش پر فی الفور عمل شروع کر دیا۔ اسی کے ساتھ AICSE کے تحت 1958 میں ایک مرکزی امتحانی یونٹ (Central Examination Unit) کا قیام بھی عمل میں لایا گیا اور اس طرح نظام امتحان میں اصلاحات کا کام زور و شور سے جاری ہو گیا۔ آگے چل کر یہی ادارہ Directorate of Extension Programmes in Secondary Education کہلایا اور 1961 میں یہ نیشنل کونسل فار ایجوکیشن ریسرچ اینڈ ٹریننگ (NCERT) کی شکل اختیار کر گیا۔

اپنی معلومات کی جانچ (Check your progress)

- 1- سکنڈری ایجوکیشن نے امتحانی نظام میں کون سی تبدیلیوں کی سفارشات کیں؟

2.5 انڈین ایجوکیشن کمیشن (Indian Education Commission (1964-66)

انڈین ایجوکیشن کمیشن آزادی کے بعد ہندوستان میں قائم کیا جانے والا چھٹا کمیشن تھا۔ اس کمیشن کا حکومت ہند کی قرارداد کے ذریعے 14 جولائی 1964 کو تقرر ہوا۔ ڈاکٹر دولت سنگھ کوٹھاری جو اس وقت یو جی سی کے صدر نشین تھے اس کمیشن کی صدارت کے لیے نامزد کیے گئے۔ اسی وجہ سے اسے کوٹھاری کمیشن کے نام سے جانا جاتا ہے۔

اس کمیشن میں ملک اور بیرون ملک سے مختلف میدانوں سے تعلق رکھنے والے ماہرین کو بحیثیت اراکین شامل کیا گیا۔ کمیشن کے قیام کے اہم مقاصد میں شعبہ تعلیم کے تمام میدانوں کا تفصیلی جائزہ لینا، قومی تعلیم کا ایک عمومی خاکہ تیار کرنا اور ہندوستان میں تعلیم کی ترقی کے لیے رہنمایانہ خطوط اور پالیسیوں کے اجراء کے لیے مشاورت کرنا شامل تھے۔

اس کمیشن کی سب سے اہم خصوصیت یہ تھی کہ پچھلے پانچ کمیشنوں نے تعلیم کا بحیثیت کلی جائزہ نہیں لیا بلکہ تعلیم کی مختلف سطحوں اور امور پر اپنے مطالعات مرکوز کیے۔ مثلاً 1948 میں قائم کیا گیا رادھا کرشنن کمیشن یونیورسٹی تعلیم کے جائزہ کے لیے مخصوص تھا اور اس طرح سکندری کمیشن نے ثانوی سطح کی اسکولی تعلیم کو اپنی توجہ کا مرکز بنایا۔

کوٹھاری کمیشن نے اپنی رپورٹ میں اس ایقان کا اظہار کیا کہ قومی ترقی کے لیے تعلیم سب سے طاقت ور آلہ کار ہے۔ جہاں تک امتحانی نظام میں اصلاحات کا سوال ہے، اس کمیشن نے علاحدہ کوئی تجویز یا سفارش پیش نہیں کی بلکہ اس سے قبل SEC کی پیش کردہ سفارشات کا ہی اعادہ کیا۔

اپنی معلومات کی جانچ کیجیے: (Check your progress)

1- کوٹھاری کمیشن کی وہ کون سی خصوصیت ہے جو اسے دیگر کمیشنوں سے ممتاز کرتی ہے؟

2.6 قومی تعلیمی پالیسی (1986) اور پروگرام آف ایکشن (1992)

(National Policy Of Education 1986 & Programme Of Action)

قومی تعلیمی پالیسی 1968

کوٹھاری کمیشن کی سفارشات کی بنیاد پر وزیراعظم اندرا گاندھی نے سنہ 1968 میں پہلی قومی تعلیمی پالیسی کا اعلان کیا۔ اس پالیسی کی اہم خصوصیات ذیل میں پیش ہیں:

- 1- چودہ سال تک کے تمام بچوں کے لیے مفت اور لازمی تعلیم کی فراہمی کو یقینی بنانا۔
- 2- تعلیم کی ساخت کی ازسرنو تعمیر کرنا تاکہ ملک میں ایک جہتی، معاشی ترقی اور تمام بچوں کو یکساں تعلیمی مواقع فراہم ہو سکیں۔
- 3- علاقائی زبانوں کی تعلیم کے لیے توجہ مرکوز کرنا۔
- 4- سہ لسانی فارمولہ کو پورے ہندوستان میں نافذ کرنا۔
- 5- تعلیمی نظام میں زبانوں کی تعلیم کو فوقیت دینا۔
- 6- تعلیم کے لیے قومی آمدنی کے حصے کو بڑھا کر 6% کرنا۔

قومی تعلیمی پالیسی 1986

سال 1986 میں اس وقت کے وزیراعظم شری راجیو گاندھی نے 8/ مئی کو دوسری قومی تعلیمی پالیسی کا اعلان کیا۔ قومی تعلیمی پالیسی 1986 نے امتحانات کے لیے ایک نئی طرز رسائی (Approach) کی سفارش ان الفاظ میں کی۔ ”مظاہرہ کا احتساب کسی بھی تدریسی و اکتسابی عمل کا ایک لازمی حصہ ہے۔ ایک مستحکم تعلیمی حکمت عملی کے حصے کے طور پر امتحانات کو منعقد کیا جانا چاہیے۔ تاکہ تعلیم کے معیار کو بہتر بنایا جاسکے۔“

1986 NPE کے اہم مقاصد میں نظام امتحانات کی ازسرنو تشکیل شامل تھی تاکہ طالب علم کی ترقی کی جانچ کے طریقہ کار میں بھروسہ مندی اور معقولیت کو یقینی بنایا جاسکے اور یہ تدریسی عمل کو بہتر بنانے کے لیے ایک طاقت ور آلہ ثابت ہو۔ NPE نے اس ضمن میں درج ذیل سفارشات پیش کیں۔

- 1- موضوعیت (Subjectivity) کے عناصر کو دور کیا جائے۔
- 2- یاد کرنے (Memorisation) پر زور نہ دیا جائے۔
- 3- مسلسل جامع تعین قدر (Continuous Comprehensive Evaluation) کو رائج کیا جائے جس میں اسکولی اور غیر اسکولی (Scholastic & Co-scholastic) دونوں طرح کے تعلیمی امور شامل کیے جائیں۔
- 4- تعین قدر کے عمل کو اساتذہ، طلباء اور والدین کی جانب سے موثر طریقہ پر استعمال کیا جائے۔
- 5- امتحانات کے انعقاد میں بہتری لائی جائے۔
- 6- تدریسی مواد اور طریقہ تدریس میں مناسب تبدیلیاں لائی جائیں۔
- 7- ثانوی سطح سے سمسٹر نظام کو مرحلہ وار متعارف کیا جائے۔
- 8- نمبرات کی جگہ گریڈز کا استعمال کیا جائے۔

پروگرام برائے عمل 1992 (Programme of Action-1992)

قومی تعلیمی پالیسی 1986 میں ترمیمات کی گئیں اور انہیں نرسمہاراؤ حکومت نے 1992 میں اسے منظوری دی۔ اس وقت کے وزیر خزانہ ڈاکٹر منموہن سنگھ نے ایک نئی پالیسی عام اقل ترین پروگرام (Common Minimum Programme) کی بنیاد پر بنائی اور اسے پروگرام

برائے عمل 1992 کا نام دیا گیا۔

POA نے اسکولی سطح کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی سطح کے لیے مخصوص قلیل مدتی و طویل مدتی اقدامات کی تجاویز پیش کیں تاکہ امتحانی اصلاحات روبہ عمل لائے جاسکیں۔ POA نے چند حکمت عملیاں بھی بنائیں جو درج ذیل ہیں۔

(الف) تھانوی سطح (Primary Level)

- 1- قومی سطح پر MHRD کی جانب سے مادری زبان، ریاضی اور ماحولیاتی سائنس میں جماعت اول تا پنجم کے لیے اکتساب کی اقل ترین سطحیں (Minimum Levels of Learnin) تیار کرائی جنہیں عام طور پر MLL کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسی طرح دوسرے مضامین میں اور دوسری جماعتوں کے لیے اس طرح مشقیں تیار کی جائیں۔
- 2- چونکہ پرائمری سطح پر عدم روک تھام پالیسی (No Detention Polic) اپنائی جاتی ہے لہذا تعین قدر کا اہم مقصد تشخیصی نوعیت کا ہونا چاہیے تاکہ طلباء کو معالجاتی تدریس (Remedial Teaching) فراہم کی جاسکے۔
- 3- ہر ریاست میں متعلقہ ایجنسی تھانوی سطح کے لیے مسلسل جامع تعین قدر کی ایک چک دار اسکیم تیار کرے گی تاکہ تعین قدر کے عمل کو تدریس و اکتساب کا ایک لازمی حصہ بنایا جائے۔

(ب) ثانوی سطح (Secondary Level)

- 1- ہر ریاستی بورڈ نوویں جماعت سے بارہویں جماعت تک کے لیے حصول تعلیم کی متوقع سطحیں تیار کرے گا اور ان سطحوں کی تکمیل معلومات، تفہیم، ترسیلی مہارتیں، اطلاق، تجزیہ ترکیب اور فیصلہ سازی کے اعتبار سے کی جانی چاہیے۔
 - 2- ہر ریاست میں، متعلقہ ایجنسی ثانوی اور اعلیٰ ثانوی جماعتوں کے لیے مسلسل جامع تعین قدر کی ایک چک دار اسکیم تیار کرے گی جو مخصوص اور مختلف ضروریات کے لیے موزوں ہوں گے۔
 - 3- اعلیٰ تعلیم کی سطح (Higher Education Level) تمام پیشہ وارانہ اور کلینیکل کورسز میں داخلہ کے لیے انتخابی ٹسٹ (Selection Tests) رکھے جائیں گے۔ ہر یونیورسٹی وسیع رہنمائی خطوط تیار کرے گی اور ہر انفرادی کالج/ اداروں اور اس کے تحت آنے والے شعبہ جات کے لیے ضروری ہوگا کہ ان پر عمل آوری کریں۔
- اعلیٰ تعلیم کے اداروں میں داخلہ کے لیے انٹرنس ٹسٹ (Entrance Test) منعقد کرنے کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔

اپنی معلومات کی جانچ (Check your progress)

- 1- NPE, 1968 میں کون سی پالیسیاں پیش کی گئیں؟

2- پروگرام برائے عمل کے بارے میں مختصر نوٹ لکھیے؟

2.7 قومی نصابی ڈھانچہ / خاکہ (2005) اور امتحانی اصلاحات پر نیشنل فوکس پوزیشن پیپر

(National Curriculam Framework & Nation Focus Position Paper on Examination Reform)

قومی کونسل برائے تعلیمی تحقیق اور تربیت (NCERT)

ہندوستان میں قومی کونسل برائے تعلیمی تحقیق اور تربیت نے اب تک چار قومی نصابی خاکے (National Curriculam Frameworks) شائع کیے۔ چوتھے نصابی خاکہ کا فیصلہ این سی ای آر ٹی کی 19 جولائی کو منعقدہ عاملہ اجلاس میں لیا گیا۔ نصابی خاکہ ہندوستان میں اسکولی تعلیم کے پروگراموں کے لیے نصاب، درسی کتب اور تدریسی مشقوں کو تیار کرنے کے لیے این سی ای آر ٹی رہنمائی فراہم کرتا ہے۔

NCF-2005 کے دستاویز نے اپنی پالیسی کی بنیاد پچھلی سرکاری رپورٹیں جیسے اکتساب بغیر بوجھ (Learning without Burden)، قومی تعلیمی پالیسی 1986 اور فوکس گروپ کے مباحثوں پر رکھی جو حکومت کی جانب سے تشکیل دیے گئے۔ جملہ 21 فوکس گروپ پوزیشن پیپر تیار کیے گئے اور ان پیپرز نے NCF-2005 کی تیاری کے لیے قیمتی مواد فراہم کیا۔ NCF-2005 کی طرز رسائی اور سفارشات مکمل تعلیمی نظام کے لیے رکھی گئی تھیں۔ ان سفارشات کی بنیاد پر تیار کردہ درسی خاکہ (Syllabus) تمام CBSE اسکولوں میں رائج ہے اور کئی ریاستی اسکولوں میں بھی NCF-2005 پر مبنی مواد استعمال کیا جا رہا ہے۔ NCF-2005 دستاویز کا ترجمہ ہندوستان کی 22 زبانوں میں کیا گیا۔ NCERT نے ہر ریاست کو 10 لاکھ روپے گرانٹ جاری کی تاکہ وہ اپنی ریاستوں میں NCF کو ریاستی سرکاری زبان میں فروغ دیں اور مجوزہ درسی خاکہ کا تقابل ریاستی درسی خاکہ سے کریں یہ سرگرمی ریاستی کونسل برائے تعلیمی تحقیق و تربیت (SCERT) اور ضلعی ادارے برائے تعلیم و تربیت (DIET) کے تعاون سے انجام دی گئی۔

نیشنل فوکس گروپ پوزیشن پیپر برائے امتحان اصلاحات

(National Curriculam Framework & Nation Focus position paper on Examination Reform)

- 1- امتحانی اصلاحات پر پیش کیے گئے پوزیشن پیپر کی اہم تجاویز اور سفارشات کا خلاصہ ذیل میں پیش کیا جا رہا ہے۔
- 2- کسی بھی حالت میں بورڈ امتحان کو دسویں جماعت اور بارہویں جماعت کے علاوہ دوسری جماعتوں میں نہ رکھا جائے۔
- 3- موجودہ دور میں کمپیوٹر کے استعمال میں سہولت کے پیش نظر مارک شیٹ میں طلباء کے مظاہرہ کے مختلف پہلوؤں کی جانچ کو بھی شامل کیا جائے۔
- 3- امتحانات میں نمبرات اور گریڈنگ دینے میں ایمانداری اور شفافیت برتی جائے۔ اگر طلباء کو ان کی درخواست پر جوابی بیاضات دیے جائیں تو دوبارہ جانچ (Recheck) کی درخواستوں میں نمایاں کمی واقع ہوگی۔

- 4- پرچہ سوالات کی تیاری (Paper Setting) میں بھی کافی اصلاحات کی ضرورت ہے۔
- 5- پرچہ سوالات میں کثیر انتخابی سوالات (Multiple Choice Question-MCQ) پر شامل کیے جائیں۔
- 6- طلباء میں پائے جانے والے امتحانی تناؤ اور تشویش کو کم کیا جائے۔
- 7- اسکولی تحصیل پر مبنی مسلسل جامع تعین قدر کی اسکیم پر عمل آوری کی جائے۔
- 8- داخلی احتساب (Internal Assessment) کو مناسب اہمیت (Weightage) دی جائے۔

اپنی معلومات کی جانچ (Check your progress)

1- قومی نصابی خاکہ کون سے کام انجام دیتا ہے؟

2- قومی نصابی خاکہ 2005 پر مختصر نوٹ لکھیے۔

3- امتحانی اصلاحات کے پوزیشن پیپر میں پیش کی گئیں کوئی چار سفارشات لکھیے۔

2.8 امتحانی نظام میں اصلاحات: اطلاعی و ترسیلی ٹیکنالوجی کا کردار

(Reform in Examination System, Role of ICT in Examination System)

ہندوستان میں مابعد آزادی تعلیم کی ہر سطح جیسے اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں طلباء کے داخلوں میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے۔ طلباء کی اس کثیر تعداد کے لیے امتحانات کا موثر طریقہ پر اور بروقت انعقاد کرنا، امتحان سے متعلقہ ڈاٹا کو ریکارڈ کرنا، اور وقت پر نتائج کو جاری کرنا، فرض ان تمام امور کی انجام دہی منتظمین کے لیے ایک وقت طلب مسئلہ بنتی جا رہی ہے۔ اس تناظر میں امتحانی نظام کی مختلف سرگرمیوں کو مربوط کرنے (Integrating) اور خود کار بنانے (Automating) میں ICT کو ایک موثر آلہ کار کے طور پر ICT کے استعمال سے امتحانی نظام کی کارکردگی کو موثر، بھروسہ مند اور شفاف بنایا جاسکتا ہے۔ ICT سے جڑی مختلف خدمات جیسے آن لائن ویب پورٹل (On Line Web Portal)، کمپیوٹرائزڈ کاؤنٹرز (Computerised Counters)، ہیلپ ڈیسک (Help Desk)، کامن سروس سنٹرز، آن لائن اطلاعات کی فراہمی کے ذریعہ خدمات میں بہتری لائی جاسکتی ہے۔

ایک جامع امتحانی انتظام میں ICT کا استعمال درج ذیل کاموں کی انجام دہی کے لیے کیا جاسکتا ہے۔

- 1- طلباء کا رجسٹریشن اور آن لائن درخواست فارم کا ادخال
- 2- ہال ٹکٹ کی اجرائی
- 3- سوالات بنک (Question) کا آن لائن اجراء
- 4- امتحانی مراکز کو بہ حفاظت پرچہ سوالات کی سپردگی
- 5- جوابی بیاضات میں OMR اور بار کوڈ (Bar Code) ٹکنالوجی کا استعمال
- 6- ڈیجیٹل اسکیننگ (Digital Scanning)
- 7- امتحانی نتائج کی اشاعت
- 8- دوبارہ جانچ (Re-Evaluation) کے لیے آن لائن درخواست داخل کرنے کی سہولت غرض اس طرح ICT کا استعمال کرتے ہوئے امتحان عمل کی رفتار (Speed) بھروسہ مندی (Reliability)، اور صحت (Accuracy) میں قابل لحاظ حد تک بہتری لائی جاسکتی ہے۔

اپنی معلومات کی جانچ (Check your progress)

- 1- امتحانی نظام میں ICT کے استعمال سے کس طرح کی بہتری کی توقع کی جاسکتی ہے۔
- 2- آپ کے مدرسہ میں امتحانات کے انعقاد میں ICT سے جڑی کون سی سہولیات کا استعمال کیا جاتا ہے۔

2.9 یاد رکھنے کے نکات (Point to be Remember)

- 1- ہندوستان میں آزادی کے بعد بحیثیت مجموعی تعلیمی نظام میں خاطر خواہ تبدیلیاں لانے کے لیے کئی ایک کمیشنوں اور کمیٹیوں کا تقرر کیا گیا۔ جس میں خاص طور پر اسکولی تعلیم سے متعلق سنڈری ایجوکیشن کمیشن اور انڈین ایجوکیشن کمیشن اہم ہیں۔
- 2- انڈین ایجوکیشن کمیشن کی سفارشات پر پہلی قومی تعلیمی پالیسی کا اعلان 1968ء میں ہوا۔ اس کے بعد 1986 میں دوسری قومی تعلیمی کا اعلان کیا گیا۔ اس پالیسی کے تحت نہ صرف یہ کہ مجموعی طور پر قومی تعلیم کا خاکہ پیش کیا گیا بلکہ کئی اہم اصلاحات لائی گئیں اسی سلسلہ کی ایک اور کڑی پروگرام برائے عمل 1992 (PoA) کی شکل میں سامنے آئی۔
- 3- تعلیمی نظم میں نصابی خاکہ کی اپنی اہمیت ہوتی ہے۔ اس اکائی میں قومی نصابی خاکہ 2005 کی اہم خصوصیات پیش کی گئی ہیں۔ قومی نصابی خاکہ کی تیاری کے لیے جملہ فوکس گروپ بنائے گئے تھے جس میں ایک فوکس گروپ امتحانی اصلاحات سے تعلق تھا۔ اس اکائی میں امتحانی اصلاحات سے متعلق پوزیشن پیپر کی رپورٹ اور اس کا خلاصہ بھی شامل کیا گیا ہے۔ امتحانی نظام میں اطلاعی و ترسیلی ٹکنالوجی کے استعمال

سے ہونے والے فائدے بھی بتائے گئے ہیں۔

2.10 فرہنگ (Glossory)

خارجی امتحان	:	External Examinations
قومی نصابی ڈھانچہ	:	National Curriculam Framework
م مسلسل جامع تعین قدر	:	Continuous Comprehensive Evaluation
تخلیقیت	:	Creativity
امتحالی ٹسٹ	:	Selection Tests
مجموعی تعلیمی نظام	:	Integrated Educational Structure

2.11 اکائی کے اختتام کی سرگرمیاں (Unit End Excercise)

معروضی جوابات کے حامل سوالات؛

1. خارجی امتحان کو کم کرنے کی پیشکش کس نے کی تھی
(1) سکیٹڈری ایجوکیشن کمیٹی
(2) کوٹھاری کمیشن
(3) NCF 2005
(4) ان میں سے کوئی نہیں
2. انڈین ایجوکیشن کمیشن کے صدر کون تھے؟
(1) دولت سنگھ کوٹھاری
(2) ڈاکٹر ذاکر حسین
(3) اندرا گاندھی
(4) ان میں سے کوئی نہیں
3. پہلی قومی تعلیمی پالیسی کا اعلان کب ہوا؟
(1) 1968
(2) 2005
(3) 1964
(4) ان میں سے کوئی نہیں
4. مندرجہ ذیل میں ICT کا تعلق کس امور سے ہے؟
(1) تعلیم و تربیت
(2) کمپیوٹر کی تعلیم
(3) دونوں
(4) ان میں سے کوئی نہیں
5. پہلی قومی تعلیمی نصاب کب وجود میں آیا؟
(1) 1948
(2) 1967

مختصر جوابات کے حامل سوالات؛

- 1- نظام امتحانات میں اصلاحات کی ضرورت کیوں محسوس کی جاتی ہے؟ بیان کیجیے۔
- 2- سکندری ایجوکیشن کمیشن نے امتحانات سے متعلق کون کون سی اہم سفارشات پیش کیں؟
- 3- کوٹھاری کمیشن کے قیام کے اہم مقاصد کیا تھے؟
- 4- قومی تعلیمی پالیسی 1986 نے نظام تعلیم میں پرائمری سطح کے لیے کونسی تبدیلیوں کی سفارش پیش کی؟

طویل جوابات کے حامل سوالات؛

- 1- قومی نصابی خاکہ کے اہم خدوخال لکھیے۔
- 2- امتحانی نظام میں اطلاعی و تریسیل ٹکنالوجی کے کردار پر روشنی ڈالیے۔
- 3- کوٹھاری کمیشن کی وہ کونسی خصوصیت ہے جو اسے دیگر کمیشنوں سے ممتاز کرتی ہے؟

2.12 مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں (Suggested Books for Further Readings)

(Ebel Robert, L.(1996) Measuring Educational Achievements, Pentice Hall of New Delhi)

(Ebel Robert, L. and Fristic, David A 1991: Essentials of Educational Achievements, Pentice Hall & India, New Delhi)

Dave, P.N. & Pattnayak D.P. Improving Status in the Methodology

Curriculum For the 10 Year School-A Frame Work

شری واستو، کے ایس (1989) کا مپریہینسو ایجوکیشن ان اسکولز (Comprehensive Education in Schools) این سی ای آر ٹی، نئی

دہلی، بھارت

اکائی 3۔ اکتساب کے ابعاد اور آلات

(Dimensions and Tools of Learning)

اکائی کے اجزا

- 3.1 تمہید (Introduction) 3.1
- 3.2 مقاصد (Objectives) 3.2
- 3.3 اکتساب کے ابعاد اور سطحیں (Dimensions and Levels of Learning) 3.3
- 3.3.1 اکتساب کے ابعاد (Dimensions of Learning) 3.3.1
- 3.3.2 اکتساب کی سطحیں (Levels of Learning) 3.3.2
- 3.4 حقائق و تصورات کی برقراری، رہنمائی، مخصوص مہارتوں کا اطلاق 3.4
- (Retention / Recall of Facts and Concepts, Application of Specific Skills)
- 3.5 آلات و علامتوں کا استعمال، مسائل کا حل تلاش کرنا، مختلف صورت حال میں اکتساب حاصل کرنا 3.5
- (Manipulating Tools and Symbols, Problem Solving, Applying Learning to Diverse Situations)
- 3.6 معنی کی تشکیل: تجربات سے خیالات اخذ کرنا، ربط و رشتگی دیکھنا، استنباط، تجزیہ، انعکاس 3.6
- (Meaning Making Propensity, Abstraction of Ideas from Experiences; Inference, Analysis, Reflection)
- 3.7 اصلیت اور آغاز، تعاونی شراکت، تخلیقیت، چمک 3.7
- (Originality and Initiative, Collaborative Participation, Creativity, Flexibility)
- 3.8 اکتساب کے لیے موزوں اصول اخذ کرنا، موضوع سے متعلق اور فرد سے متعلق 3.8
- (Evolving suitable criteria for assessment, subject, related, individual related)
- 3.9 یاد رکھنے کے نکات (Points to be Remembered) 3.9
- 3.10 فرہنگ (Glossary) 3.10
- 3.11 اکائی کے اختتام کی سرگرمیاں (Unit End Exercises) 3.11
- 3.12 مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں (Suggested Books for Further Readings) 3.12

3.1 تمہید (Introduction)

پہلی اکائی میں آپ نے احتساب کی بنیادی اصطلاحات کے بارے میں سیکھا اور احتساب برائے اکتساب پر اپنی توجہ مرکوز کی۔ آپ نے اکتساب کا احتساب (Assessment of Learning) سے احتساب برائے اکتساب کی جانب اہم تبدیلی کو بھی بخوبی سمجھا۔ دوسری اکائی میں آپ نے آزاد ہندوستان میں مختلف کمیٹیوں اور کمیشنوں کے تقریر اور ان کی سفارشات کی روشنی میں بنائی جانے والی مختلف پالیسیوں کے بارے میں واقفیت حاصل کی۔

اس اکائی میں احتساب کے مختلف ابعاد کے بارے میں سیکھیں گے اور ساتھ ہی احتساب کے لیے درکار مختلف آلات سے بھی واقف ہوں گے۔ اس اکائی میں پیش کیے جانے والے احتساب کے ابعاد کو فلسفہ تعمیریت کے پس منظر میں ہمیں سمجھنا ہوگا۔ تعمیریتی طرز رسائی اور احتساب کے تناظر اور احتساب کے تصور میں تبدیلی کو درج ذیل پیرا گراف میں مختصراً بیان کیا جا رہا ہے۔

ایک روایتی اکتسابی عمل کے دوران، استاد حقائق کو طلباء میں منتقل کرتا ہے اور یہ فرض کر لیتا ہے کہ طلباء معلومات کو غیر متحرک طور پر حاصل کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس میں درس و تدریس کا عمل معلم مرکوز ہوتا ہے۔ قومی نصابی ڈھانچہ 2005 نے معلم۔ مرکوزیت کے بجائے معلم۔ مرکوزیت پر زور دیا۔ NCF-2005 کے مطابق مواد نصاب اور اس کی پیش کشی و احتساب طلباء کی مناسبت سے ہونی چاہیے تاکہ وہ انہیں نئی معلومات کی تعمیر کرنے اور تاحیات طالب علم بننے میں مدد کر سکے۔ لہذا تدریسی طریقہ کے عمل اور تعین قدر میں معلم مرکوزیت سے معلم مرکوزیت کی جانب تبدیلی ضروری ہے۔

جب معلم کمرہ جماعت میں داخل ہوتا ہے تو دو سوال ابھرتے ہیں۔ کیا پڑھانا ہے؟ اور کیسے پڑھانا ہے؟ معلم سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ مواد مضمون اور طریقہ تدریس دونوں سے واقف ہوگا۔ طالب علم کی معلومات کی تعمیر کے لیے، معلم مختلف حکمت عملیوں کو اختیار کرے گا جو تعمیریتی طریقہ تدریس (Constructivist Pedagogy) کے دائرہ میں آتے ہیں۔ تعمیریتی تدریس کے کئی ماڈل ہیں۔ ہر ماڈل میں عام طور پر پانچ بنیادی عناصر پائے جاتے ہیں جو اس طرح ہیں (i) بچھیلی معلومات کو متحرک کرنا (ii) نئی معلومات حاصل کرنا (iii) معلومات کی تفہیم کرنا (iv) معلومات کا استعمال کرنا (v) معلومات کو منعکس کرنا۔ تعمیریت کے تناظر میں کیے جانے والے احتساب میں اوپر بیان کیے گئے پانچوں علاقوں پر توجہ مرکوز کی جاتی ہے۔ اس پس منظر کے ساتھ اس اکائی میں ہم اکتساب کے ابعاد اور سطحیں اور احتساب کے آلات کے بارے میں سیکھیں گے۔

3.2 مقاصد (Objectives)

اس اکائی کے مطالعہ کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ:

- ☆ تعمیریت اور اس کے مفہوم کو سمجھ سکیں۔
- ☆ احتساب کے مختلف ابعاد کو سمجھ سکیں۔
- ☆ مختلف صورت حال میں اکتساب کو با معنی بنا سکیں۔
- ☆ تجربات سے خیالات کا استخراج کرنے کے عمل کو سمجھ سکیں۔

☆ اکتساب کی خصوصیات جیسے چلک، تخلیقیت، شراکت وغیرہ کو سمجھ سکیں۔

3.3 اکتساب کے ابعاد اور سطحیں (Dimensions and Levels of Learning)

اکتساب کے ابعاد ایک جامع ماڈل ہے جو تحقیق کاروں اور ماہرین کی پیش کردہ اکتسابی عمل کی تعریف کو استعمال کرتا ہے۔ ابعاد کا فریم ورک درج ذیل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔

☆ اکتساب پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے

☆ اکتسابی عمل کے مطالعہ کے لیے

☆ نصابی تدریس اور احساب کی منصوبہ بندی کے لیے

3.3.1 اکتساب کے ابعاد (Dimensions of Learning)

اکتساب ایک باہمی ترسیل (Interactive) کا عمل ہے جس میں سوچ (Thinking) کی پانچ اقسام یا سوچ کے پانچ ابعاد (Dimensions) شامل ہوتے ہیں۔

(1) اکتساب کے تعلق سے مثبت رویے اور Perceptions

(2) علم کو حاصل کرنے اور مربوط (integrate) کرنے کی سوچ

(3) علم کو خارجی اور خالص کرنے کی سوچ

(4) علم کو با معنی طور پر استعمال کرنے کی سوچ

(5) دماغ کی پیداوار، عادتیں

بعد (1) اکتساب کے تئیں مثبت رویے اور ادراک رکھنا:

رویے اور ادراک طلباء کی اکتسابی قابلیت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر طلباء کمرہ جماعت کے کام کے تعلق سے منفی رویے رکھتے ہوں تو ان کاموں میں شاید بہت کم کوشش کریں۔ لہذا ایک موثر تدریس کے لیے ایک اہم عنصر یہ ہے کہ ہم طلباء میں کمرہ جماعت کے کام اور اکتساب کے تعلق سے مثبت رویے اور ادراک کو فروغ دینے میں مدد کریں۔

بعد (02): علم کو حاصل کرنے اور مربوط کرنے کی سوچ:

اکتساب کا ایک اور اہم پہلو طلباء کو علم کے حصول اور اسے مربوط (Integrate) کرنے کے عمل میں مدد کرنا ہے۔ جب طلباء کوئی نئی معلومات سیکھتے ہیں تو ان کو پچھلی معلومات جسے وہ پہلے سے جانتے ہیں اس سے جوڑنے میں رہنمائی کرنا ایک معلم کے لیے ضروری ہے۔

بعد (03): علم کو خارجی اور بہتر بنانے کی سوچ:

اکتساب علم حاصل کرنے اور اسے مربوط کرنے کے ساتھ رک نہیں جاتا۔ طلباء ان معلومات کی گہرائی تک جاتے ہیں اور اپنی معلومات کو بہتر بناتے ہیں۔ اس عمل کے لیے وہ درج ذیل استدلالی عمل کا استعمال کرتے ہیں۔

- (1) تقابل (Comparing)
- (2) استخراجی استدلال (Deductive Reasoning)
- (3) درجہ بندی (Classifying)
- (4) تعاون کی تعمیر (Constructing Support)
- (5) استنباط (Abstracting)
- (6) خامیوں کا تجزیہ (Analysing Errors)
- (7) استقرائی استدلال (Inductive Reasoning)
- (8) تناظر کا تجزیہ (Analyzing Perspectives)

بُعد (04): علم کو با معنی استعمال کرنے میں شامل سوچ:

سب سے موثر اکتساب اس وقت انجام پاتا ہے جب ہم علم کو با معنی کام کرنے میں استعمال کرتے ہیں۔ طلباء کو معلومات کو با معنی طور پر استعمال کرنے کے مواقع فراہم کرنا تدریسی منصوبہ بندی کا ایک اہم حصہ ہے۔

اکتسابی ابعاد کے ماڈل (Dimensions of Learning Mode) میں چھ استدلالی عمل پیش کیے گئے ہیں جن کے گہر کاموں (Tasks) کی تعمیر علم کے با معنی استعمال کے ذریعے کی جاسکتی ہے۔

- ☆ فیصلہ سازی (Decision Making)
- ☆ کھوج (Investigation)
- ☆ مسائل کا حل تلاش کرنا (Problem Solving)
- ☆ تجرباتی کھوج (Experimental inquiry)
- ☆ ایجاد (Invention)
- ☆ نظام کا تجزیہ (System Analysis)

بُعد (05): دماغ کی پیداواری عادتیں

وہ طلباء جو موثر ترین اکتساب کے حامل ہوتے ہیں وہ کارآمد دماغی عادتوں کو فروغ دیتے ہیں جس کے ذریعے وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ تنقیدی و تخلیقی سوچ رکھیں اور اپنے برتاؤں میں تبدیلی لائیں۔

ان ذہنی عادتوں کی فہرست درج ذیل ہے

- ☆ تنقیدی سوچ رکھنا (Critical Thinking)
- ☆ تخلیقی سوچ کو فروغ دینا (Cultivate Creative Thinking)
- ☆ خودضابطگی کی سوچ (Self Regulated Thinking)

3.3.2 اکتساب کی سطحیں (Stages of Learning)

- تعمیراتی ماڈل کے لحاظ سے اکتساب کی پانچ سطحیں ہوتی ہیں۔ حقائق (Facts)، اطلاع (Information)، واقفیت (Know-how)، تفہیم (Comprehension) اور عقل مندی (Wisdom)
- (1) حقائق (Facts): اکتساب کی پہلی سطح حقائق سے متعلق ہوتی ہے۔ حقائق راست تجربات اور مشاہدہ سے حاصل ہوتے ہیں اور اکتساب کی بنیادی سطح کو بناتے ہیں۔ اس سطح پر حقائق کا کوئی راست اطلاق نہیں پایا جاتا۔
 - (2) اطلاعات (Information): اکتساب کی دوسری سطح اطلاعات سے متعلق ہوتی ہے۔ اطلاعات کے بیان میں کون، کیا، کب، کہاں اور کتنے جیسے سوالات شامل ہوتے ہیں۔ اطلاعات کے ساتھ ہم حقائق کا استعمال شروع کر سکتے ہیں۔
 - (3) واقفیت (Know-how): اکتساب کی تیسری سطح واقفیت پر توجہ مرکوز کرتی ہے۔ واقفیت کی سطح ہدایات کی شکل میں وضاحتوں کا ایک مجموعہ ہوتی ہے۔ واقفیت کی مدد سے ہم تجربات سے معلومات کو اخذ کر سکتے ہیں۔
 - (4) تفہیم (Comprehension): اکتساب کی چوتھی سطح تفہیم سے متعلق ہوتی ہے۔ تفہیم اس سوال ”کیوں؟“ کا جواب فراہم کرتی ہے۔ جب ہم ”کیوں؟“ کو سمجھ جاتے ہیں تو اکتساب ہمارے علم کو بہتر استعمال کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔
 - (5) حکمت (Wisdom): حکمت یا عقلمندی کسی چیز کے تعین قدر کرنے کی صلاحیت کو کہتے ہیں۔ یہ ترقی کے لیے ضروری ہے۔ حکمت کے بغیر معلومات کی تفہیم اور واقفیت سے صحیح اور متوقع نتائج حاصل نہیں ہو سکتے۔

اپنی معلومات کی جانچ (Check your progress)

1- اکتساب کے مختلف ابعاد کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟

2- تعمیراتی ماڈل کے لحاظ سے اکتساب کی مختلف سطحیں کون سی ہیں؟

3.4 حقائق و تصورات کی برقراری / باز طلبی، مخصوص مہارتوں کا اطلاق

(Retention / Recall of Facts and Concepts, Application of Specific Skills)

حقائق و تصورات کی برقراری / باز طلبی

”ہم وہی یاد رکھتے ہیں جس کا مفہوم ہم سمجھتے ہیں، ہم وہی مفہوم سمجھ سکتے ہیں جسے ہم توجہ دیتے ہیں، ہم

اس پر توجہ دیتے ہیں جسے ہم پسند کرتے ہیں“ - Edward Bolles

عام طور پر مضمون مرکوز اکتساب میں استاد کچھ سیکھاتا ہے اور پھر اس بات کی جانچ کرتا ہے کہ طلباء اس کے سکھائے گئے مواد کو یاد رکھ پائے یا نہیں؟ ہماری تدریس کا بیشتر حصہ حقائق و تصورات پر مرکوز ہوتا ہے۔ بہت کم اساتذہ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ طلباء سیکھی ہوئی معلومات کا اطلاق مختلف سیاق و سباق میں کس حد تک کر پاتے ہیں۔ موجودہ متعلم مرکوز تدریس میں طلباء کے ماضی اور روزمرہ کے عملی تجربات کو کمرہ جماعت کے اندر اور باہر اطلاق کرنے پر زور دیا جا رہا ہے تاکہ وہ اپنے اکتساب کے ذریعہ خود کے علم (Knowledge) کی تعمیر کر سکیں۔

تدریس و اکتساب کے عمل میں استاد کے لیے یہ بات اہم بات ہے کہ وہ طلباء میں مخصوص اہم مہارتوں کو فروغ دیں تاکہ وہ حقائق و تصورات سے واقف ہوں، یاد رکھیں، جہاں کہیں ضرورت ہو باز طلب کریں اور پھر اپنی خود کی معلومات یا علم کی تعمیر کریں۔ ہم کیسے بھولتے ہیں۔

بھولنے کے چار اہم نظریے ہیں:

(1) دھندلاؤ (Fading)

اس نظریہ کے مطابق جو کچھ بھی ہم سیکھتے ہیں اس کے نشان ہمارے دماغ میں پڑتے ہیں۔ اگر ہم سیکھی ہوئی چیز کا اعادہ نہ کریں تو یہ نشان دھندلے پڑنے لگتے ہیں۔

(2) باز رسائی (Retrieval)

اس نظریہ کے مطابق بھولی گئی کوئی حقیقت (Fact) دراصل دھندلاتی نہیں بلکہ اپنے دماغ کے مخصوص مقام سے ہٹ جاتی ہے یا دوسرے لفظوں میں گم ہو جاتی ہے۔ اس لیے بھولنے سے بچنے کے لیے ہمیں اس فائل کی صحیح Lebellng کرنی چاہیے تاکہ اسے بہ آسانی دماغ سے حسب ضرورت حاصل (Retrieval) کیا جاسکے۔

(3) خلل اندازی (Interference)

اس نظریہ کے مطابق حافظہ میں محدود گنجائش (Space) ہوتی ہے۔ اسی لیے جب نئی معلومات اس میں جمع ہوتی ہیں تو پرانی اور نئی معلومات میں جگہ کے معاملے میں تصادم واقع ہوتا ہے۔ اس مسئلہ کا تدارک مختلف معلومات کے درمیان ہم نشنگی کی نشاندہی کیجیے اور مماثل معلومات کو ایک ہی فائل میں ساتھ رکھا جائے۔

(4) تعاملی خلل اندازی (Interactive Interference)

اگر ہم کوئی وسیع معلومات کو ایک ہی وقت میں سیکھ رہے ہوں تو اکثر ہم پہلے اور آخر میں پیش کیے گئے معلومات کو یاد رکھتے ہیں اور درمیانی معلومات گم ہو جاتی ہیں۔ اس مسئلہ کا حل اس میں ہے کہ ہم کسی ایک مضمون کو ایک وقت میں با معنی طریقے پر سیکھیں۔ یاد رکھنے کے اصول:

عام طور پر بہتر طور پر یاد رکھنے کے لیے پانچ اصولوں پر زور دیا جاتا ہے جو حسب ذیل ہیں:

☆ تعریف یا توصیف یاد رکھنے کو فروغ دیتی ہے۔

☆ ربط و رشتنگی (Association) سے باز طلبی (Recall) کو فروغ ہوتا ہے۔

- ☆ موزوں رویوں کے ذریعے برقراری (Retention) میں مدد ملتی ہے۔
- ☆ تمام حسی اعضا کے ذریعے اکتساب حاصل کرنا موثر ترین ہوتا ہے۔
- ☆ بامعنی دہرائی (Repetition) باز طلبی میں معاون ہوتا ہے۔

مخصوص مہارتوں کا اطلاق (Applications of Specific Skills)

اکثر لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی مہارت نہیں ہے۔ جبکہ ماہرین اس بات سے واقف ہیں کہ یہ خیال بالکل صحیح نہیں ہے بلکہ ہر شخص مہارتوں کا مختلف اعتبار سے حامل ہوتا ہے جیسے کوئی شخص کسی ایک مہارت میں اچھا ہے تو کوئی دوسری مہارت میں اچھا ہو سکتا ہے۔

ایسویں صدی کی مہارتوں کو عام طور پر 4C's کہا جاتا ہے جس سے مراد ہے، Communicating, Creative Thinking,

Collaborating اور Critical Thinking

(1) تنقیدی سوچ (Critical Thinking)

طلبا میں تنقیدی سوچ کی مہارت کو درج ذیل طریقوں سے فروغ دیا جاسکتا ہے۔

- ☆ تجزیہ کے ذریعے
- ☆ بحث کے ذریعے
- ☆ درجہ بندی کرتے ہوئے
- ☆ تقابل کرتے ہوئے
- ☆ تعریف (Define) کرتے ہوئے
- ☆ بیان کرتے ہوئے
- ☆ تعین قدر کرتے ہوئے
- ☆ وضاحت کرتے ہوئے
- ☆ مسائل کا حل نکالتے ہوئے

(2) تخلیقی سوچ (Creative Thinking)

تخلیقی سوچ کو فروغ دینے کے لیے درج ذیل طریقے اختیار کیے جاسکتے ہیں۔

- ☆ برین اسٹارمنگ (Brain Starming): بچوں سے سوال پوچھنا اور تمام جوابات کی فی الفور فہرست تیار کرنا
- ☆ کسی چیز کی تخلیق کرنا (Creating)
- ☆ ڈیزائن تیار کرنا (Designing)
- ☆ لطف اندوزی فراہم کرنا (Entertaining): کہانیوں، لطیفوں، گیتوں، کھیلوں، مکالموں یا ڈرامے میں کردار نبھاتے ہوئے لطف اندوز کرنا۔
- ☆ خیالات کے تصور بنانا (Imagining)
- ☆ ایجادیں کرنا (Innovating)

- ☆ مسائل کا حل تلاش کرنا
- ☆ سوالات کرنا
- (3) ترسیل (Communication) کو بہتر بنانے کے موزوں طریقے اس طرح ہوں گے۔
 - ☆ صورت حال کا تجزیہ کرنا
 - ☆ کوئی ذریعہ (جیسے رو بہ رو، رپورٹ، پیغام) کو منتخب کرنا۔
 - ☆ پیغامات (Messages) کا تعین قدر کرنا
 - ☆ بغور سماعت کرنا
 - ☆ مطالعہ کرنا
 - ☆ گفتگو کرنا
 - ☆ تحریر میں لکھنا
- (4) شراکت (Collaborating) کو فروغ دینے کے طریقے حسب ذیل ہیں۔
 - ☆ ذرائع کو تقسیم (Allocate) کرنا
 - ☆ برین اسٹارمنگ (Brain Storming)
 - ☆ فیصلہ سازی (Decision Making)
 - ☆ گروپ کے ارکان کو کام تفویض کرنا
 - ☆ ارکان کے کام کے نتائج کا تعین قدر کرنا

اپنی معلومات کی جانچ (Check your progress)

1- ہم کیوں بھولتے ہیں؟ بیان کیجیے۔

2- حافظہ میں خلل اندازی سے کیا مراد ہے؟

3.5 آلات و علامتوں کا استعمال، مسائل کا حل تلاش کرنا، مختلف صورت حال میں اکتساب حاصل کرنا

(Manipulating Tools and Symbols, Problem Solving, Applying Learning to Diverse Situations)

مسائل کا حل تلاش کرنا، انطباق کرنا، مختلف صورت حال میں اکتساب حاصل کرنا:

بچے کی نشوونما کے مدارج میں ابتدائی دور کو ما قبل زبان (Prelingual) اور ما قبل علامت (Pre-Symbolic) دور کہتے ہیں۔ جیسے

جیسے بچے کی ذہنی نشوونما ہوتی ہے ویسے ویسے وہ علامتوں اور زبان کا استعمال تصورات کو سمجھنے میں کرنے لگتا ہے۔ ریاضی کے اکتساب کے لیے سب سے زیادہ اہم ذہنی صلاحیتوں میں حافظہ، لسانی مہارتیں اور تعداد اور مقام (Space) کی ذہنی نمائندگی کی صلاحیتیں شامل ہوتی ہیں۔ ریاضی کی نشوونما کا انحصار لسانی نشوونما پر ہوتا ہے۔ طلباء ریاضی کے مشکل کاموں کو پورا کرنے میں زبان کا استعمال کرتے ہیں۔

ریاضی کے اکتسابی آلات (Mathematical Learning Tools) روایتی، تکنیکی یا سماجی ہو سکتے ہیں۔ روایتی آلات میں اشیاء (مثلاً کلب)، خاکے (Diagrams)، کاغذ اور پینسل کے کام شامل ہوتے ہیں۔ تکنیکی آلات میں کیلکولیٹر (Calculators)، کمپیوٹرز کو ہم شمار کر سکتے ہیں۔ سماجی آلات میں چھوٹے گروپ میں ہونے والے بحث و مباحثے، آپسی بات چیت وغیرہ شمار ہوتے ہیں۔

مسائل کا حل تلاش کرنا:

مسائل کا حل تلاش کرنا ہر نصاب کا ایک اہم حصہ ہونا چاہیے۔ اس کے ذریعے طالب علم میں کسی کام کی اپنے آپ پر ذمہ داری لینے، مسائل کو حل کرنے میں ذاتی طور پر کوشش کرنے، تنازعات کو سلجھانے، متبادلات پر بحث کرنے اور سوچنے پر توجہ مرکوز کرنے میں صلاحیتیں پروان چڑھتی ہیں۔ یہ طلباء کو اپنی نئی حاصل کردہ معلومات کو با معنی بنانے اور حقیقی تجربات زندگی میں استعمال کرنے کے مواقع فراہم کرتا ہے اور انہیں اعلیٰ سطحوں کی سوچ پر کام کرنے میں معاون ہوتا ہے۔

مسائل کو سلجھانے کے لیے یہ پانچ مرحلہ وار ماڈل پیش کیا جاتا ہے:

(1) مسئلہ کی تعریف اور اس کی تفہیم کرنا

(2) مقصد کی تکمیل کی راہ میں درپیش رکاوٹوں کو سمجھنا

(3) مختلف حل کی نشاندہی کرنا

(4) حاصل کیے گئے حل پر عمل آوری کرنا

(5) نتائج کا تجربہ کرنا

مختلف صورتحال میں اکتساب کا اطلاق:

اساتذہ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ طلباء اپنے اکتساب کو مختلف صورت حال میں اطلاق کریں۔ اکتساب اسی وقت با معنی اور موثر ہوتا ہے جب اس کا استعمال زندگی میں درپیش مختلف صورتحال میں کامیابی کے ساتھ کیا جائے۔

طلباء کو مختلف صورت حال میں اکتساب کے حصول میں مشغول رکھنے کے لیے درج ذیل اصول پر عمل کرنا چاہیے۔

(1) بحیثیت استاد آپ طلباء کو جو بھی سکھا رہے ہوں اسے حقیقی زندگی سے جوڑیں

(2) طلباء کی دلچسپیوں کا استعمال کریں۔

(3) اطلاعات (Information) مختلف طریقوں سے فراہم کی جائیں۔

(4) طلباء کو خود پر نظر رکھنے اور محاسبہ کرنے کی مہارتوں کو فروغ دیں۔

اپنی معلومات کی جانچ (Check your progress)

1- مسائل کا حل تلاش کرنا ہر نصاب کا اہم حصہ کیوں ہونا چاہیے؟

2- مسائل کے حل کے پانچ مرحلہ وار ماڈل پر نوٹ لکھیے؟

3.6 معنی کی تشکیل: تجربات سے خیالات اخذ کرنا، ربط و رشتگی دیکھنا، استنباط، تجزیہ، انعکاس

(Meaning Making Propensity, Abstraction of Ideas from Experiences; Inference, Analysis, Reflection)

جدید تعلیمی نظریہ، اکتساب میں طلباء کے فعال شراکت داری پر زور دیتا ہے۔ اس صدی کی تعلیمی تحقیق کا ایک بڑا حصہ طلباء کے اکتسابی عمل میں استعمال پر زور دیتا ہے بجائے یہ کہ سیکھے جانے والے مواد کی ساخت کیا ہے، ہم تمام فطری اور حقیقی دنیا سے معلومات کا انتخاب اپنے اعضاء حسی کی مدد سے کرتے اور انہیں منظم کرتے رہتے ہیں۔ بچہ پیدائشی طور پر دنیا کی تشریح کرنے کی ویسی ہی صلاحیت رکھتا ہے جس طرح بالغ افراد میں ہوتی ہے۔ انہیں اشیاء کے معنی سیکھنا ہوتا ہے اور وہ بتدریج اپنے تجربات سے سیکھتے رہتے ہیں۔

تجربات سے مجرد خیالات کی تجدید (Abstraction of Ideas from Experiences)

تعمیریت پسند اساتذہ (Constructivist Teachers) اپنے طلباء کا مسلسل احتساب کرتے رہتے ہیں کہ کس طرح کوئی سرگرمی ان کی تفہیم میں مدد کر رہی ہے۔ اپنے آپ سے اور اپنی حکمت عملیوں سے متعلق سوالات کرتے رہنے کے باعث تعمیریتی کمرہ جماعت میں طلباء ”ماہر معلمین“ (Expert Learners) بن جاتے ہیں۔ اس طرح یہ انہیں ایسے آلات فراہم کرتے ہیں جس سے وہ بہتر طور پر منصوبہ بند کمرہ جماعت کے ماحول میں اپنے اکتساب کو جاری رکھ سکیں۔ دوسرے معنوں میں طلباء کو کس طرح سیکھنا چاہیے (How to Learn) یہ بھی سیکھتے ہیں۔

لفظ مجرد (Abstract) ایک صفت جو ٹھوس (Concrete) کی ضد ہے۔ ٹھوس سے مراد کوئی مخصوص شے ہوتی ہے جب کہ مجرد سے ایک عام وصف مراد ہے جس کے تحت مخصوص شے پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ”جنگ“ ایک مجرد خیال ہے جب کہ پہلی جنگ عظیم ایک ٹھوس خیال ہے۔ اسی طرح دائرہ نمائی (Circularity) مجرد ہے جب کہ سکے، کھانے کی پلیٹس (Plates) اور ہر وہ شے جو دائرہ نما ہو ”ٹھوس“ اشیاء میں شمار ہوتی ہیں۔ مجرد خیالات اخذ کرنے کی صلاحیت کو اعلیٰ ذہنی صلاحیت سمجھا جاتا ہے۔

تجدید (Abstraction) ایک نسبتی تصور ہے۔ جس کا تعلق بچہ کی عمر سے ہوتا ہے۔ ایک دو سال کے بچے کے لیے ”کل کے بعد کا دن (Day after tomorrow) کا تصور ایک بہت ہی مجرد تصور ہے جب کہ یہی تصور ایک ہائی اسکول کے طالب علم کے لیے ایک ٹھوس تصور ہے۔ ذہنی نشوونما میں ٹھوس سوچ (Concrete thinking) سے مجرد سوچ (Abstract Thinking) کا سفر ایک اہم عنصر ہے۔

رابطہ اور روشنگری دیکھنا، استثناء، تجزیہ، انعکاس:

استنباط (Inferences) ثبوت (Evidence) کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ نتائج حاصل کرنے کے لیے ہمیں ثبوت و شواہد اکٹھا کرنے ہوتے ہیں اور ثبوت یا شواہد کو تجزیہ کے عمل کے ذریعے اکٹھا کیا جاتا ہے۔ استنباط کسی نتیجے پر پہنچنے کے عمل کو کہتے ہیں۔ تجزیہ (Analysis) تحقیق کی ایک مخصوص شکل ہے۔ اس سے مراد کسی چیز کو بہت قریب سے، بغور اور باضابطہ معائنہ کرنا ہوتا ہے۔ تجزیہ کسی چیز کو مختلف حصوں میں توڑنے کے عمل کو کہتے ہیں جس کو بہت قریب سے معائنہ کیا جائے۔ پیچیدہ معلومات کو سادہ معلومات میں توڑ دیا جاتا ہے۔ تجزیہ کا مقصد صرف یہ نہیں کہ ”کل“ (Whole) میں اجزاء (Parts) کو تلاش کیا جائے بلکہ ”کل“ کو پورے طور پر سمجھنا بھی ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ اگر اجزاء (Parts) کی نشاندہی ہو جاتی ہے تو تجزیہ اس بات کے تعین کی کوشش کرتا ہے کہ (الف) اجزاء کی ماہیت کیا ہے اور (ب) اجزاء کے درمیان اس کا کیا تعلق پایا جاتا ہے۔

استنباط بھی نہایت ضروری ہے۔ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں استنباط یعنی نتائج اخذ کرتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی مخصوص برتاؤ سے ہم کسی مخصوص جذبات و احساسات کی تشریح کرتے ہیں۔ استنباط ایک ذہنی عمل ہے جس کے ذریعے ہم کسی ثبوت کی بنیاد پر نتائج پر پہنچتے ہیں۔ انعکاس (Reflection) یا اپنے تجربات کے بارے میں سوچنا اکتساب کے لیے نہایت اہم ہے۔ انعکاس کے ذریعے ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم اپنے تجربات کا جائزہ لیں۔ اپنی غلطیوں کی نشاندہی کریں، وہی کام کریں جس سے کامیابی ملتی ہے اور اپنی گذشتہ معلومات و تجربات کی بنیاد پر نئی معلومات کی تعمیر کریں یا ان کی اصلاح کریں۔ انعکاس سے ہمیں مختلف اسکولی مضامین کے درمیان ربط نیز اسکول، کام اور گھر کے درمیان باہمی ربط و تعلق معلوم کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔

اپنی معلومات کی جانچ (Check your progress)

1- تجرید کے مفہوم کو واضح کیجیے۔

2- استنباط اور تجزیہ کی اہمیت بیان کیجیے۔

3.7 اصلیت اور آغاز، شراکتی حصہ داری، تخلیقیت، لچک

(Originality and Initiative, Collaborative Participation, Creativity, Flexibility)

تخلیقیت کے موجودہ نظریات میں سے بیشتر اصلیت اور آغاز کو ایک قسم کی موزونیت (Appropriatenes) یعنی عملی طور پر موزوں خیال کرتے ہیں۔ حالانکہ کسی اصلی خیال (Original Idea) کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ تخلیقی اعتبار سے موزوں ہوں۔ اصلیت

(Originality) تخلیقیت کا ایک لازمی حصہ ہے۔ لیکن تخلیقی چیزیں اصلیت پر ہی اکتفا نہیں کرتیں بلکہ اس سے زیادہ ہوتی ہیں۔ اوپر دیئے گئے اصلیت اور آغاز سے متعلق معنی سے ہم اس بات کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ بحیثیت استاد، ہمیں طلباء کو اس بات کی حوصلہ افزائی کریں کہ کمرہ جماعت میں تصورات سے متعلق مطالعہ اور سننے کے بعد وہ اپنے خود کے اخذ کردہ مفہوم کو پیش کر سکیں۔ اس کے لیے وہ اپنے ہم عمر ساتھیوں اور اساتذہ سے با معنی بحث کریں گے۔ اور یہی عمل تعمیریت کا ایک اہم عنصر ہے جہاں طلبا کو سوچنے، تجزیہ کرنے اور ترکیب (Synthesize) کرنے کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے جس کے ذریعہ وہ اپنے اکتساب کو مستحکم کرتے ہیں۔

شراکتی حصہ داری (Collaborative Participation)

شراکتی حصہ داری تدریس و اکتساب کا ایک طریقہ ہے جس میں طلباء ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کسی مخصوص سوال یا مسئلہ کے حل کے لیے ایک با معنی پروجیکٹ بناتے ہیں اور باہم مل کر کھوج کرتے ہیں۔ تعاونی اکتساب ایک ایسی صورت حال ہے جس میں دو یا دو سے زائد طلباء ساتھ مل کر کچھ سیکھتے ہیں یا سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس اکتسابی عمل میں وہ ایک دوسرے سے اپنے تجربات کو بانٹتے ہیں۔ ایک دوسرے کی معلومات سے استفادہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے جوابدہ بھی ہوتے ہیں۔

شراکتی اکتساب کے ذریعہ طلباء میں بین ذاتی مہارتیں (Interpersonal Skills) فروغ پاتی ہیں۔ اگر کوئی تنازعہ پایا جائے تو اس سے کس طرح نمٹا جائے وہ سیکھ لیتے ہیں۔

تخلیقیت (Creativity)

تخلیقیت کسی نئے اور اصلی خیال کو حقیقت میں تبدیل کرنے کا عمل ہے۔ تخلیقیت کی اہم خصوصیات میں دنیا کو ایک منفرد نظر سے دیکھنے، چھپے ہوئے Patterns کو معلوم کرنے، بظاہر غیر متعلق اشیاء میں رشتگی اور ربط معلوم کرنے کی صلاحیتیں شامل ہیں۔ تخلیقیت ایک سماجی اور ذہنی عمل ہے جس کے ذریعے نئے خیالات و تصورات کی دریافت یا موجودہ نظریات اور خیالات میں باہمی ربط کو پہچاننا شامل ہے۔ سادہ لفظوں میں کہا جائے تو تخلیقیت کچھ نئی چیز بنانے کا عمل ہے۔ تخلیقیت کو کس طرح فروغ دیا جائے؟

ماہرین نفسیات نے بچوں میں تخلیقیت کو فروغ دینے کی تکنیکیوں کو پیش کیا ہے۔ ذیل میں نکرسن (Nickerson) کی تجویز کردہ تکنیکیوں کا خلاصہ دیا جا رہا ہے۔

- ☆ ارادہ اور مقصد کو قائم کرنا
- ☆ بنیادی مہارتوں کی تعمیر کرنا
- ☆ علاقے (Domain) سے متعلق مخصوص معلومات کے حصول کی حوصلہ افزائی کرنا
- ☆ تجسس اور کھوج کی ہمت افزائی کرنا اور اس کی ترغیب دینا
- ☆ محرکہ پیدا کرنا، بالخصوص اندرونی محرکہ

- ☆ خود اعتمادی کی حوصلہ افزائی کرنا اور خطرات (Risk) قبول کرنے کے لیے آمادگی پیدا کرنا
- ☆ مہارت (Mastery) اور خود مسابقت (Self Competition) پر توجہ مرکوز کرنا
- ☆ تخلیقیت سے متعلق امدادی ایقان کو فروغ دینا
- ☆ انتخاب اور دیارفت کے لیے مواقع فراہم کرنا
- ☆ خود انتظامی (Self Management) کو فروغ دینا
- ☆ تخلیقی مظاہرہ کی سہولت رسانی کے لیے تکنیکس اور حکمت عملیاں سکھانا

لچک (Flexibility)

کمرہ جماعت میں لچک اور ہم آہنگی (Adaptability) دو اہم ضروریات ہیں۔ لچک سے مراد یہ خیال کہ آپ کے منصوبے بہت تیزی سے بدل سکتے ہیں، کبھی اطلاع دینے سے اور کبھی بغیر اطلاع دیئے۔ کمرہ جماعت میں لچک لانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے مشیروں سے تنقید حاصل کرتے رہیں تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ آپ کے طریقہ تدریس میں کون سی خوبیاں اور خامیاں پائی جاتی ہیں اور کہاں اصلاح لانے کی ضرورت پڑے گی۔ اس طرح کی تنقید تدریس کے لیے فیڈ بیک (Feedback) فراہم کرتی ہے۔ ہم آہنگی اپنے آپ میں تبدیلی لانے کی قابلیت کو کہتے ہیں۔ بحیثیت استاد آپ بدلتے رولز (Roles)، ذمہ داریوں، شیڈول اور میٹریل وغیرہ کے لحاظ سے اپنے آپ کو ہم آہنگ کرتے رہنا چاہیے۔

اپنی معلومات کی جانچ (Check your progress)

1- بچوں میں تخلیقیت کے فروغ کی کون سی تکنیکوں کو ماہرین نے پیش کیا ہے؟

2- شراکتی حصہ داری پر نوٹ لکھیے؟

3.8 احتساب کے لیے موزوں اصول اخذ کرنا، موضوع سے متعلق اور فرد سے متعلق

(Evolving suitable criteria for assessment, subject, related, individual related)

احتساب شواہد کو جمع کرنے اور اس کی بنیاد پر استعداد حاصل ہوئی یا نہیں اس بات کا فیصلہ کرنے کا عمل ہے۔ اس کے ذریعہ یہ طے کر دیا جانا چاہیے کہ فرد اسکول میں متوقع معیار کا مظاہرہ کر سکتا ہے یا نہیں۔

احتساب کے سیاق و سباق:

احتساب کے مقصد کا اس کے سیاق و سباق سے بڑا قریبی تعلق ہے۔ سیاق و سباق (Context) میں وہ تمام چیزیں شامل ہو جاتی ہیں

جس سے احتساب کے اسباب اور مسائل کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔

سیاق و سباق جس پر کہ کمرہ جماعت میں احتساب کیا جاتا ہے، ان کی جانچ تعلیمی معلومات کے خاکہ کے لحاظ سے کی جاتی ہے۔

احتساب کے سیاق و سباق کو اب ہم شخص اور موضوع دونوں اعتبار سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔

کسی شخص کے احتسابی عمل کا تعلق پیشہ وارانہ تھیرپی (Occupational Therapy) سے ہے۔ پھر بھی ہم بحیثیت استاد ہمیں طالب علم کو مکمل طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لہذا یہاں شخصی احتساب پر اسکول رادارہ سے متعلق امور کے حوالے سے بحث کی جاتی ہے۔

فرد سے متعلق احتساب (Individual Related Evaluation)

Ecology of Human Performance Model Dunn, Brown & MC Guigan, 1994 کے مطابق کسی شخص

پر اس کے ماحول سے تعامل کے نتیجہ کا اثر اس کے برتاؤ اور مظاہرہ پر پڑتا ہے۔ انسانی مظاہرہ کو ہم صرف سیاق و سباق (Context) کے عدسہ (Lens) کے ذریعے ہی سمجھ سکتے ہیں۔ جس میں اس کی جسمانی، ثقافتی اور سماجی خصوصیات شامل ہوتی ہیں۔ مختصراً طور پر کہا جائے تو شخص اور سیاق و سباق کے تعامل سے ہی اس کے مظاہرہ کا تعین کیا جاسکتا ہے۔

موضوع سے متعلق احتساب:

ہم نہ صرف شخص ر طالب علم کا مجموعی طور پر احتساب کرتے ہیں بلکہ مواد سے متعلق بھی احتساب کرتے ہیں۔ یہاں طالب علم کی استعداد کی جانچ، اس کی درس و تدریس سے متعلقہ مواد پر کام کرنے کی قابلیت پر کی جاتی ہے۔

احتساب رسمی بھی ہو سکتا ہے جیسے یونٹ ٹسٹ، یا پھر غیر رسمی بھی ہو سکتی ہے جیسے گروپ میں کون قائد کے طور پر ابھرتا ہے اس کا مشاہدہ کرنا۔

احتساب کمرہ جماعت کے اساتذہ بھی تیار کر سکتے ہیں یا پھر ریاستی یا قومی ایجنسیاں جیسے ایجوکیشنل ٹسٹنگ سرویسز (Educational Testing Services) موجودہ زمانے میں احتساب میں کاغذ اور قلم ٹسٹ سے لے کر مشاہدات و مظاہرات، پورٹ فولیو یا آرٹی فیکٹ کی تخلیق (Creation of Artifact) یا جرنل میں تحریروں تک شامل کیے جا رہے ہیں۔

اپنی معلومات کی جانچ (Check your progress)

1- احتساب سے کیا مراد ہے؟

2- رسمی اور غیر رسمی احتساب کا فرق بتائیے۔

3.9 یاد رکھنے کے نکات (Points to be Remembered)

- (1) روایتی اکتسابی عمل معلم مرکوز ہوتا ہے جن میں استاد معلومات اور حقائق کو طلباء میں منتقل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے برعکس قومی نصابی ڈھانچہ 2005 میں بجائے معلم مرکوزیت کے متعلم مرکوزیت پر زور دیا گیا ہے اور تعمیراتی طرز رسائی (Constructivist Approach) پر بھی زور دیا گیا ہے۔
- (2) اکتساب کے تعمیراتی طرز رسائی پر مبنی ماڈل میں اکتساب کے پانچ ابعاد شامل ہیں جو درج ذیل ہیں:
- اکتساب کے تین مثبت رویے اور ادراک رکھنا۔
 - علم کو حاصل کرنے اور مربوط کرنے کی سوچ۔
 - علم کو خارجی اور بہتر بنانے کی سوچ۔
 - علم کو با معنی استعمال کرنے میں شامل سوچ۔
 - دماغ کی پیداواری عادتیں۔
- (3) تعمیراتی اکتساب کے لحاظ سے اکتساب کی پانچ سطحیں اس طرح ہیں۔
- | | | | | | |
|------|-------|------|---------|-------|--------|
| (i) | حقائق | (ii) | اطلاعات | (iii) | واقفیت |
| (iv) | تفہیم | (v) | حکمت | | |

3.10 فرہنگ (Glossary)

Fading	:	جو کچھ بھی ہم سیکھتے ہیں اس کے نشان ہمارے دماغ میں پڑتے ہیں۔ اگر ہم سیکھی ہوئی چیز کا اعادہ نہ کریں تو یہ نشان دھندلے پڑنے لگتے ہیں جسے fading کہتے ہیں۔
4C's Competencies	:	اکیسویں صدی کی مہارتوں کو عام طور پر 4C's کہا جاتا ہے جس سے مراد ہے Communicating, Collaborating اور Creative Thinking, Critical Thinking
Domain	:	علاقہ
Abstract Thinking	:	مجرد سوچ
Retention	:	برقراری
Recall	:	باز طلبی
Reflection	:	انعکاس
Analysis	:	تجزیہ

3.11 اکائی کے اختتام کی سرگرمیاں (Unit End Exercise)

معروضی جوابات کے حامل سوالات؛

- 1- (CBSE نے CCE Pattern) کو کب لاگو کیا؟
(ا) 2008 (ب) 2007 (ج) 2005 (د) 2009
- 2- تخلیقیت سوچ کو فروغ دینے کے واسطے درج ذیل طریقہ اختیار کیے جاتے ہیں۔
(ا) ایجادات (ب) سوالات کرنے کی چھوٹ (ج) ان میں سے دونوں (د) ان میں سے کوئی نہیں
- 3- اکتسابی ابعاد میں کتنے استدلالی عمل پیش کیے گئے ہیں۔
(ا) دو (ب) تین (ج) آٹھ (د) ان میں سے کوئی نہیں
- 4- ذہنی عادتوں میں شمار کرتے ہیں
(ا) تنقیدی سوچ (ب) تخلیقیت (ج) ان میں سے دونوں (د) ان میں سے کوئی نہیں
- 5- ان میں سے کون حافظہ میں خلل پیدا کرنے کے عوامل ہیں۔
(ا) تعمیراتی ماڈل (ب) بے توجہ (ج) تنقیدی سوچ (د) تخلیقیت

مختصر جوابات کے حامل سوالات؛

- 1- اکتساب کے ابعاد اور سطحیں کیا ہیں؟
- 2- اکتساب کے ابعاد کا تقابل اکتساب کے معیارات سے کیجیے۔
- 3- اساتذہ کس طرح حقائق، تصورات اور مہارتوں کو برقراری (Retantion) اور با زبلی (Recall) کے طریقوں سے سیکھا سکتے ہیں۔
- 4- آلات و علامتوں کے استعمال سے آپ کیا مفہوم مراد لیتے ہیں۔
- 5- تجربات سے خیالات کو علاحدہ کرنے کے عمل کو مختصراً سمجھائیے۔
- 6- آپ طلباء میں مجرد سوچ (Abstract Thinking) کو کس طرح فروغ دیں گے۔

طویل جوابات کے حامل سوالات؛

- 1- آپ طلباء میں لچک اور تخلیقیت کو کس طرح فروغ دیں گے۔
- 2- شراکتی حصہ داری پر مختصر نوٹ لکھئے۔
- 3- احتساب کے سیاق و سباق میں فرد سے متعلق اور موضوع سے متعلق احتساب کے کیا معنی ہیں؟

3.11 مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں (Suggested Books for Further Readings)

- 1 Aggarwal, Y.P. (1990). Statistical methods, concepts, application and computations. New Delhi: Sterling Publisher Pvt. Ltd.
- 2 Belgrad, S., Burke, K. & Fogarty, R. (2008). The portfolio connection: Student work linked to standards. California: Corwin Press Inc. (A Sage Publication Company).
- 3 Burke, K. (2009). How to assess authentic learning. California: Corwin Press Inc. (A Sage Publication Company).
- 4 Ebel, R.L. (1996). Measuring achievements. New Delhi: Prentice Hall
- 5 Ebel, R.L. & Fristic D.A. (1991). Essentials of educational achievements. New Delhi: Prentice Hall
- 6 Ferguson, G.A. (1974). Statistical analysis in psychology and education. New York: McGraw Hill B.K. Co.
- 7 Garrett, H.E. & Woodworth, R.S (1969). Statistics in psychology and education. Bombay: Vakils Feffer & Simons Pvt. Ltd.
- 8 Guilford J.P & Benjamin F. (1973). Fundamental statistics in psychology & education. New York: McGraw Hill Book Co.
- 9 Guskey, T.R., & Bailey, J.M. (2001). Developing grading and reporting systems for student learning. California: Corwin Press Inc. (A Sage Publication Company).
- 10 McMillan, J.H. (2013). Classroom assessment: Principles and practice for effective standards-based instruction. Boston: Pearson
- 11 Popham, W.J. (1990). Modern educational measurement: A practitioners perspective. USA: Prentice Hall
- 12 Rammers, H.H. & Gaje, N.L.F. (). A practical introduction to measurement and evaluation. Delhi: University book stall
- 13 Shepard, L.A. (2000). The role of assessment in a learning culture. Educational Researcher, 29(7), 4-14. Retrieved form <http://nepc.colorado.edu/files/TheRoleofAssessmentinaLearningCulture.pdf>
- 14 Srivastava, A.B.L. & Sharma, K.K. (1974). Elementary statistics in psychology & education. New Delhi: Sterling Publishers Pvt. Ltd.
- 15 Stiggins, R. (2005). From formative assessment to assessment for learning: A path to success in standards-based schools. Phi Delta Kappan, 324-328.

اکائی 4۔ احتساب میں اساتذہ کی استعداد

(Teacher Competences in Assessment)

اکائی کے اجزا

- | | |
|-------|---|
| 4.1 | تمہید (Introduction) |
| 4.2 | مقاصد (Objectives) |
| 4.3 | تعمیریت کا تصور اور اس کا مفہوم (Concept and Meaning of Constructivism) |
| 4.3.1 | تعمیریت کا تصور (Concept of Constructivism) |
| 4.3.2 | تعمیریت کی خصوصیات (Characteristic Features of Constructivism) |
| 4.4 | احتساب کے آلات: تیاری اور استعمال (Tools of Assessment their uses & Construction) |
| 4.4.1 | تحصیلی ٹیسٹ (Achievement Test) |
| 4.4.2 | انیک ڈوٹل ریکارڈ (Anecdotal Record) |
| 4.4.3 | کیومولٹیو ریکارڈ (Cumulative Record) |
| 4.4.4 | چیک لسٹ (Check List) |
| 4.4.5 | ریٹنگ اسکیل (Rating Scale) |
| 4.4.6 | سوالنامہ (Questionnaire) |
| 4.5 | کام کی اقسام (Kinds of Tasks) |
| 4.5.1 | پراجیکٹ پر مبنی اکتساب (Project Based Learning) |
| 4.5.2 | تفویضات (Assignments) |
| 4.5.3 | مظاہراتی ٹیسٹ (Performance Test) |
| 4.6 | ٹیسٹ کا مفہوم، درجہ بندی اور ان کی تیاری (Meaning of Tests, Classification and their Constructions) |
| 4.6.1 | تحصیلی ٹیسٹ کی تیاری (Construction of Achievement Test) |
| 4.7 | مشاہدہ کا مفہوم (Meaning of Observation) |
| 4.7.1 | روبرکس کا تصور (Concept of Rubric) |

پورٹ فولیوز: مفہوم، اقسام، مقاصد، طریقہ عمل اور اطلاق	4.8
(Portfolios: Meaning, Types, Purposes, Process and Application)	
یاد رکھنے کے نکات (Points to be Remembered)	4.9
فرہنگ (Glossary)	4.10
اکائی کے اختتام کی سرگرمیاں (Unit End Exercises)	4.11
مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں (Suggested Books for Further Readings)	4.12

4.1 تمہید (Introduction)

تعمیریت قدرت دریس و اکتساب کے عمل کا ایک اہم رکن اور اس کا جز ترکیبی ہے۔ تعین قدرت دریس و اکتساب کے عمل کو بہتر بنانے میں معلم اور متعلم دونوں کے لیے ہی معاون ثابت ہوتا ہے۔ اس مقصد کے لیے مختلف آلات اور تکنیکوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ہر آلہ کی اپنی خاص خصوصیات اور استعمالات ہیں۔ اس اکائی میں تعین قدرت دریس و اکتساب کے عمل کے لیے مختلف آلات، ان کی تیاری، خصوصیات وغیرہ کی معلومات فراہم کی جا رہی ہیں۔

4.2 مقاصد (Objectives)

- اس اکائی کے مطالعہ کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ:
- ☆ تعمیریت کے تصور کی تعریف کر سکیں گے۔
 - ☆ تعمیریت کی خصوصیات کو بیان کر سکیں گے۔
 - ☆ احتساب کے آلات اور ان کے استعمالات سے واقف ہو سکیں گے۔
 - ☆ اکتسابی کاموں کی مختلف اقسام کو جان سکیں۔
 - ☆ تحقیقی ٹیسٹ کو تیار کر سکیں۔
 - ☆ روبرکس (Rubrics) کے تصور کی وضاحت کر سکیں۔
 - ☆ پورٹ فولیوز کے مفہوم کو سمجھ سکیں۔

4.3 تعمیریت کا تصور اور اس کا مفہوم (Concept & Meaning of Constructivism)

4.3.1 تعمیریت کا تصور: Concept of Constructivism

تعمیریت اس مخصوص فلسفہ پر مبنی ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہر فرد اپنے تجربات کی بنیاد پر اپنے علم کی تعمیر کرتا ہے اور اس سے اکتساب حاصل کرتا ہے۔ جین پیاجے (Jean Piaget) جن کو حیاتیاتی تعمیریت (Biological Constructivism) کا بانی مانا جاتا ہے، کہتا ہے کہ ہر انسان کے دماغ میں موروثی طور پر (Hereditarily) پیدائش کے وقت سے ہی علم کی کچھ بنیادی اکائیاں پائی جاتی ہیں جسے وہ اسکیمیا / اسکیمیاٹا (Schema/Schemata) کا نام دیتا ہے۔ متعلم اس کے پاس پہلے سے موجود علم کے سانچے (اسکیمیا) سے نئی معلومات کی تعمیر کرتا ہے۔ لیکن سماجی تعمیریت (Social Constructivism) کے حامیوں کا ماننا ہے کہ فرد اپنے علم کی تعمیر سماجی میل جول کے ذریعہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر متعلم اپنے تجربات اور باہمی میل جول کے ذریعہ دنیا کی تشریح ذاتی طور پر کرتا ہے۔ اس نکتہ نظر کے مطابق متعلم اور ماحول دونوں کے باہمی میل جول (Interaction) کے نتیجے میں علم (Knowledge) کی تخلیق ہوتی ہے۔

4.3.2 تعمیریت کی خصوصیات (Characteristics of Constructivism)

(1) متعلم کی ماہیت (Nature of Learner)

سماجی تعمیریت ہر متعلم کو ایک ایسے فرد کے طور پر دیکھتی ہے جس کی اپنی مخصوص ضروریات اور خاص پس منظر ہو۔ متعلم کو پیچیدہ اور کثیر العبادی

شخصیت کے بطور بھی دیکھا جاسکتا ہے۔

(2) انسٹرکٹر کا کردار (Role of Instructor)

سماجی تعمیریت کے مطابق انسٹرکٹر کو سہولت رساں (Facilitator) کا کردار ادا کرنا چاہیے نہ کہ درس دینے والے کا۔ سہولت رساں طالب علم کو متن کی اپنے لحاظ سے تفہیم میں مدد کرتا ہے۔ اس طریقہ میں انسٹرکٹر غیر متحرک (Passive) ہوتا ہے اور طالب علم فعال (Active) ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اکتسابی ماحول کو بھی اس طرح ڈیزائن کیا جائے کہ وہ طالب علم کی سوچ اور اسے مسئلہ کا حل تلاش کرنے میں معاون ثابت ہو۔

(3) اکتسابی عمل کی نوعیت (Nature of Learning Process)

اکتساب ایک فعال اور سماجی علم ہے۔ سماجی تعمیریت پروگنوسکی (Vygotsky) (1978) کے کام کا نمایاں اثر پڑا ہے جو یہ تجویز پیش کرتے ہیں کہ علم کی تعمیر اول سماجی پس منظر میں ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد فرد اپنے لحاظ سے اس کی ترتیب و تکمیل کرتا ہے۔ سماجی تعمیریت کے مطابق فرد میں اپنے ہم عمر ساتھیوں کے ساتھ اپنے تجربات بانٹنے (Share) کے نتیجے میں باہمی تفہیم کی تعمیر ہوتی ہے۔

(4) طلباء کے درمیان تعاون (Cooperation Between Students)

مختلف پس منظر اور مختلف مہارتوں کے حامل طلباء کو کسی کام کی تکمیل کے سلسلے میں آپس میں تعاون کرتے ہیں۔ بحث و مباحثہ کرتے ہیں اور پھر کسی ایک مخصوص میدان میں حقیقت (Truth) کو سمجھ پاتے ہیں۔

اپنی معلومات کی جانچ (Check your progress)

1- تعمیریت کے تصور کی وضاحت کیجیے۔

2- تعمیریت کی اہم خصوصیات کو مختصراً بیان کیجیے۔

4.4 احتساب کے آلات: تیاری اور استعمال (Tools of Assessment their uses and Construction)

تعلیمی تعین قدر میں احتسابی آلہ کی تعریف کچھ اس طرح کی جاتی ہے کہ ’ایک ایسا آلہ جو طالب علم کی تحصیل سے متعلق شواہد اکٹھا کرے‘۔ تعلیمی تعین قدر کے اہم آلات میں تحصیلی ٹیسٹ، انیک ڈٹل ریکارڈ، کیو مولٹیپل ریکارڈ، چیک لسٹ، ریٹنگ اسکیل، سوالنامہ وغیرہ شامل ہیں۔

4.4.1 تحصیلی ٹیسٹ (Achievement Test)

جہاں تک اساتذہ کا سوال ہے، سب سے اہم آلہ جسے وہ استعمال کرتے ہیں وہ تحصیلی ٹیسٹ ہے۔ تعین قدر کے اعتبار سے تحصیل (Achievement) کو قدری مقاصد اور اکتساب کے نتیجے میں ہونے والی کرداری تبدیلیوں (Behavioural Changes) کے تناظر میں سمجھنا

چاہیے۔ استاد طالب علم میں ہر اکتسابی تکتہ کی حصولیابی کی سطح کو جاننے میں دلچسپی رکھتا ہے اور ان کا تعین قدر پہلے سے طے شدہ تدریسی مقاصد کی بنیاد پر کرتا ہے جسے ہم تحصیلی ٹیسٹ کہتے ہیں۔

4.4.2 انیک ڈوئل ریکارڈ (Anecdotal Record):

اکثر کمرہ جماعت میں یا باہر طلبا غیر معمولی برتاؤ کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں۔ استاد اس مخصوص برتاؤ کو وقت اور مقام کے تعین کے ساتھ ریکارڈ کر لیتا ہے۔ ان اندراجات سے آگے چل کر طلبا کی شخصیت کے اہم اوصاف کو سمجھنے میں کافی مدد ملتی ہے۔ اس ریکارڈ کو انیک ڈوئل ریکارڈ کہتے ہیں۔

انیک ڈوئل ریکارڈ کا نمونہ

اسکول کا نام:

طالب علم کا نام جماعت مضمون

مشاہدہ کار تاریخ وقت

واقعہ (Incident) کا معروضی بیان

انیک ڈوئل ریکارڈ کے فائدے:

- ☆ یہ طالب علم کی شخصیت کے اوصاف کو صراحت کے ساتھ فراہم کرتا ہے۔
- ☆ مختلف حالات میں طالب علم کے برتاؤ کو سمجھنے میں معاون ہوتا ہے۔
- ☆ یہ ایک مسلسل ریکارڈ ہوتا ہے۔
- ☆ یہ طلبا کے Self Appraisal میں استعمال کے لیے ڈاٹا فراہم کرتا ہے۔
- ☆ نئے اساتذہ کو طلبا کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔
- ☆ یہ طبی خدمات (Clinical Services) میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔

4.4.3 کیومولیٹیو ریکارڈ (Cumulative Record)

کیومولیٹیو ریکارڈ ایک جامع ریکارڈ ہوتا ہے جس میں ہر طالب علم کی ایک وقت سے دوسرے وقت تک کی تعلیمی ترقی کی رفتار اور نمونہ (Pattern) کو طولی (Longitudinal) اعتبار سے درج کیا جاتا ہے۔

کیومولیٹیو ریکارڈ کے عناصر:

- ☆ نصاب کے مختلف مضامین میں حصولیابی کا ڈاٹا
- ☆ جسمانی نشوونما
- ☆ صحت کے امور
- ☆ ہم نصابی سرگرمیوں میں شمولیت
- ☆ خصوصی تحصیل (Special Achivement)

4.4.4 چیک لسٹ (Check List)

چیک لسٹ ایک سادہ آلہ ہوتا ہے جس میں سوالات (Items) کی ایک فہرست دی جاتی ہے جسے تحقیق کار اپنے متعلقہ مسئلہ کے مطالعہ کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اس ریکارڈ میں مشاہدہ کار ہر سوال کی موجودگی کو ہاں یا 'نا' میں نشان لگا کر کرتا ہے۔

4.4.5 ریٹنگ اسکیل (Rating Scale)

ریٹنگ اسکیل بھی چیک لسٹ کی ہی ایک شکل ہے لیکن اصلاح شدہ۔ چیک لسٹ میں ہم کسی متغیر (Variable) کی موجودگی یا غیر موجودگی کو ریکارڈ کرتے ہیں لیکن اس سے کسی متغیر کی موجودگی کی مقدار کا پتہ نہیں چلتا۔ اس خامی کو ریٹنگ اسکیل میں دور کر دیا جاتا ہے۔ اس اسکیل میں ہر خصوصیت (Trait) کو ایک مخصوص ڈگری میں نشان دیا جاتا ہے جیسے اچھا (Good)، اوسط (Average) اور کمزور (Poor) جب ریٹنگ اسکیل تین نکات کی ہو۔ اسی طرح پانچ یا سات نکات (Point) والی ریٹنگ اسکیل بھی ہوتی ہے۔

4.4.6 سوالنامہ (Questionnaire)

سوالنامہ ایک آلہ ہے جس میں ترتیب سے سوالات پیش کیے جاتے ہیں اور اسے گروپ (Group) یا واحد فرد کو بھیجا جاتا ہے یا دیا جاتا ہے اور ان کے دیے گئے جوابات کی بنیاد پر دریافت شدہ مسئلہ کے لیے ڈاٹا حاصل کیا جاتا ہے۔

اپنی معلومات کی جانچ کیجیے (Check your progress)

1- ریٹنگ اسکیل اور چیک لسٹ میں فرق واضح کیجیے۔

2- ایک ڈوئل ریکارڈ کی اہمیت و افادیت پر نوٹ لکھیے۔

4.5 کام کی اقسام (Kinds of Task)

4.5.1 پروجیکٹ پر مبنی اکتساب (Project Based Learning)

اصطلاح ”پراجیکٹ“ کا استعمال سب سے پہلے انجینئرز اور سرورٹرز (Surveyors) نے اپنے پلان کے حوالے سے کیا۔ یہ طریقہ اکتساب جان ڈیوی کے تعلیمی فلسفہ، فلسفہ افادیت کا نتیجہ ہے۔ جان ڈیوی ایک مشہور امریکی فلاسفر اور ماہر تعلیم تھا۔ اس طریقہ تعلیم کو کولمبیا یونیورسٹی کے پروفیسر ولیم کلپٹرک (William Kilpatrick) نے ترقی دی۔ انہوں نے ”پراجیکٹ“ کی تعریف ان الفاظ میں کی ”پورے دل سے اور با مقصد سرگرمی جو سماجی ماحول میں کی جائے“۔

پروجیکٹ کے اصول (Principles of Project)

☆	اصول مقصد
☆	سرگرمی کا اصول
☆	تجربہ کا اصول
☆	سماجی تجربہ کا اصول
☆	حقیقت کا اصول
☆	آزادی کا اصول
☆	استعمالیت کا اصول

پروجیکٹ کی اقسام (Types of Project)

☆	پیدا کنندہ قسم (Producer Type)
☆	صارف قسم (Consumer Type)
☆	مسئلہ کی قسم (Problem Type)
☆	مشق کی قسم (Drill Type)

پروجیکٹ کے مراحل (Stages of Project)

- (1) صورت حال فراہم کرنا: طلباء معلم کی مدد سے ہم جماعت طلباء کے ساتھ آپسی مباحثہ کے ذریعے کسی مسئلہ کو منتخب کرتے ہیں اور اس کو بیان کرتے ہیں۔
- (2) انتخاب اور مقصدیت: پراجیکٹ کا انتخاب اس طرح کیا جائے کہ وہ مخصوص مسئلہ یا ضرورت کو مطمئن کرتا ہو۔ طلباء خود پراجیکٹ کا انتخاب کرتے ہیں۔
- (3) منصوبہ بندی: پراجیکٹ سرگرمی کو شروع کرنے سے قبل استاد طلباء کو منصوبہ بندی کی ضرورت کی طرف توجہ دلائیں۔ منصوبہ بندی کا عمل کافی مشکل ہوتا ہے کیونکہ جتنا بہتر طریقہ پر منصوبہ بندی کی جائے گی اتنے ہی بہتر نتائج نکلتے ہیں۔

- (4) منصوبہ پر عمل آوری: پراجیکٹ کے منصوبہ کو تمام طلباء کے باہمی تعاون اور کوششوں سے عمل آوری کی جانی چاہیے۔
- (5) جانچ: جب پراجیکٹ تکمیل کو پہنچ جائے تو طلباء کو چاہیے کہ پراجیکٹ کا خود تنقیدی جائزہ لیں اور یہ دیکھیں کہ کہاں کہاں انہوں نے غلطیاں کی ہیں اور پھر ان غلطیوں کی نشاندہی کے بعد اصلاح کریں۔
- (6) ریکارڈنگ: پراجیکٹ سے متعلق تمام سرگرمیوں کا ایک مکمل ریکارڈ رکھا جائے اور ہر مرحلہ کی تمام تفصیلات نوٹ کر لی جائیں۔

ایک اچھے پراجیکٹ کی خصوصیات (Characteristics of a Good Project)

ایک اچھے پراجیکٹ میں درج ذیل خصوصیات پائی جاتی ہیں۔

- ☆ وقت پر تکمیل ہو
- ☆ فائدہ مند ہو
- ☆ چیلنج سے بھرپور ہو
- ☆ دلچسپ ہو
- ☆ تجربات سے بھرپور ہو
- ☆ باہمی تعاون سے انجام پایا گیا ہو

پراجیکٹ پر مبنی اکتساب کا احتساب (Assessment of Project Based Learning)

کسی بھی پراجیکٹ یا کام کا موثر احتساب کرنے کے لیے کثیر حکمت عملیوں کے اختیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو پراجیکٹ ایسے ہوں جن میں طلباء میں ملٹی میڈیا پریزنٹیشن (Multimedia Presentations)، ویب پیجس (Web Pages)، یا گیت وغیرہ شامل ہوں تو اس کا احتساب روایتی پراجیکٹ سے مختلف ہوگا۔

4.5.2 تفویضات (Assignments)

تفویضات مکمل تعین قدر کے عمل میں ایک اہم آلہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ تفویض میں کوئی مخصوص کام کو وقت کے تعین کے ساتھ دیا جاتا ہے اور طلباء سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ انفرادی طور پر یا گروپ کی شکل میں اس تعین کردہ کام (Task) کو مختلف ذرائع سے متعلقہ معلومات حاصل کرتے ہوئے اسے پورا کریں۔

4.5.3 مظاہراتی ٹیسٹ (Performance Test)

کسی بھی عملی کام کی جانچ کو مظاہراتی ٹیسٹ کہا جاتا ہے۔ مظاہراتی ٹیسٹ کی مثالیں ذیل میں دی گئی ہیں:

- ☆ لیباریٹری میں کیا جانے والا کام
- ☆ تجربات منعقد کرنا
- ☆ مقداری طور پر مسائل کو حل کرنے کی مہارت کا مظاہرہ کرنا

- ☆ زبانی تقریری مقابلے، نظم خوانی، مضمون نگاری وغیرہ
- ☆ نقشوں اور گلوب کے استعمال کا مظاہرہ
- ☆ آرٹ کی کلاسیں، میوزک کی کلاسیں، جسمانی تعلیم کی کلاسیں وغیرہ

اپنی معلومات کی جانچ (Check your progress)

1- پراجیکٹ طریقہ کے اہم مراحل پر نوٹ لکھیے۔

2- تفویضات سے کیا مراد ہے؟

4.6 ٹیسٹ کا مفہوم، درجہ بندی اور ان کی تیاری

(Meaning of Test, Classification and Thier Construction)

ٹیسٹ ایک منظم عمل ہوتا ہے جو کسی شخص کی ایک یا ایک سے زائد خصوصیات کو اعدادی اسکیل یا پھر درجہ بندی نظام کے ذریعے بیان کرتا

ہے۔

ہنری ای گیرٹ (Henry E. Garrett, 1959) نے ٹیسٹ کی درجہ بندی اس طرح کی ہے:

(1) ذہانتی ٹیسٹ (Intelligence Test)

☆ انفرادی: - ایک وقت میں ایک ہی فرد کی جانچ

☆ گروپ: - ایک وقت میں کئی افراد کی جانچ

☆ مظاہراتی ٹیسٹ: - بغیر کسی زبان کے استعمال کے

(2) تعلیمی تحصیلی ٹیسٹ (Educational Achivement Test)

☆ تفصیلی امتحان برائے اکیڈمک مضامین

☆ مضمون واری

☆ تشخیصی ٹیسٹ

(3) رجحانات کا ٹیسٹ (Attitude Test)

☆ آرٹ اور موسیقی

☆ پیشہ ورانہ جیسے تعلیم، قانون، انجینئرنگ وغیرہ

☆ اسکولی مضامین کے تئیں خصوصی رجحان

(4) شخصیت کے مختلف امور کا ٹیسٹ

☆ ذاتی مطابقت کا سوالنامہ (Personal Adjustment Question)

☆ رویوں کا سروے (Attitude Surveys)

☆ دلچسپی کی انونٹری (Interest Inventories)

☆ اصولی تکنیکیں (Projective Techniques)

اسکولی تحصیلی آزمائش (Scholastic Achievement Test)

مطلوبہ سمت میں طلباء کے برتاؤ اور طرز عمل میں تبدیلی لانے کو تحصیل (Achievement) کہتے ہیں۔ طلباء کی معلومات، مہارتیں، صلاحیتیں، رویے، دلچسپیوں وغیرہ کا اندازہ لگانا تعین قدر کا حصہ ہوتا ہے۔ تحصیلی آزمائش کے ذریعے کسی خاص مضمون میں طلباء کی تفہیمی سطح کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ اس لیے ہر معلم کے لیے ضروری ہے کہ وہ تحصیلی آزمائش کو صحیح طریقہ پر تیار کرنے اور منعقد کرنے کے بارے میں معلومات رکھے۔

تحصیلی آزمائش کی تعریف مختلف ماہرین نے مختلف انداز میں کی ہیں۔ چند تعریفیں ہم یہاں پیش کر رہے ہیں۔

”ترتیب و اکتساب کے دور کے بعد کسی فرد کی کامیابیوں اور حصول علم کی جانچ کرنے والی آزمائش کو تحصیلی آزمائش کہتے ہیں۔“

(N.M. Dounile)

”وہ ٹیسٹ جو اسکول میں سکھائے جانے والے کسی مضمون کی معلومات، مہارتوں اور تفہیم وغیرہ کی جانچ کرے۔“ (Good)

اسکولی تحصیلی آزمائش کی اہم خصوصیات (Characteristics of Scholastic Achievement Test)

- (1) یہ اکتسابی عمل کے نتیجے میں ہونے والی تبدیلی کی پیمائش کرتی ہے۔
- (2) یہ ایک معیاری آزمائش ہوتی ہے جو طلباء کی ضرورتوں کو مد نظر رکھ کر تیار کی جاتی ہے۔
- (3) یہ ان طلباء کی ذہنی سطح پر مبنی ہوتی ہے جن کے لیے یہ تیار کی جاتی ہے۔
- (4) اس آزمائش میں تینوں علاقوں (ادراکی، نفسی و حرکت اور تاثراتی) سے متعلق سوالات شامل رہتے ہیں۔
- (5) اس آزمائش کے ساتھ ایک ہدایتی کتابچہ (Manual) بھی ہوتا ہے جس میں نشانات دینے کی اسکیم، ٹیسٹ کے انعقاد کے اصول وغیرہ کو درج کیا جاتا ہے۔

اسکولی تحصیلی آزمائش کے مقاصد (Objectives of SAT)

SAT کے اہم مقاصد یہ ہیں

- (1) طلباء کو اگلے درجے میں ترقی دینے کے لیے بنیاد فراہم کرنا۔
- (2) کسی مخصوص جماعت میں طالب علم کے مقام و موقف کی نشاندہی کرنا۔

- (3) یہ آزمائش معلم کو خود کا محاسبہ کرنے میں مدد دیتی ہے کہ تدریسی مقاصد کے حصول میں وہ کس حد تک کامیاب ہوا ہے اور کس حد تک ناکام۔
- (4) اکتسابی عمل میں معیار (Quality) اور کمیت (Quantity) کو یقینی بنانا۔
- (5) درس و تدریس کے عمل کے بعد طلباء کی کسی خاص مضمون میں صلاحیتوں کی جانچ کرنا۔
- (6) طلباء کے مظاہرے سے واقف ہونا۔
- (7) فراہم کردہ اکتسابی تجربات کی اثر آفرینی کے بارے میں جاننا۔

SAT کی تیاری کے مراحل:

درج ذیل شکل SAT کی تیاری کے مختلف مراحل کی نمائندگی کرتی ہے۔

SAT کی تیاری کے دوران مختلف مراحل پیش آتے ہیں۔ ان مختلف مراحل کو ہم تفصیل سے سمجھیں گے۔

- (1) ٹیسٹ کی منصوبہ بندی:- یہ SAT کا سب سے پہلا اور اہم مرحلہ ہے۔ اس مرحلہ پر معلم مقاصد کا تعین کرتا ہے۔ وقت اور دن کا تعین کرتا ہے، کون سی اکائیوں سے سوالات دینا ہے اس کا فیصلہ کرتا ہے۔ غرض یہ مرحلہ معلم کے لیے سب سے دشوار ہوتا ہے۔ اس دوران وہ چار طرح کے نمونے (Formats) تیار کرتا ہے جو حسب ذیل ہیں:
- (الف) اکائیوں کی اہمیت کا لحاظ کرتے ہوئے نشانات تقسیم کرنا۔

نمونہ برائے مواد متن (Weightage to Content)

فیصد	نشانات	اکائی/ذیلی اکائی	سلسلہ نشان
			1
			2
			3
			4
100	25	جملہ	

- (ب) مقاصد کی نسبتی اہمیت کے لحاظ سے نشانات کو تقسیم کرنا۔

نمونہ برائے مقاصد (Weightage to Objectives)

فیصد	نشانات	مقاصد
		معلومات (Knowledge) تفہیم (Understanding) اطلاق (Application) مہارت (Skill) رویے (Attitudes) دلچسپی (Interest) استحسان (Appreciation)
100	25	جملہ

(ج) آزمائش کے لیے مختلف انواع کے سوالات کی نسبی اہمیت کا تعین کر کے نقصانات تقسیم کرنا۔

نمونہ برائے سوالات کی اقسام (Weightage to Type of Questions)

فیصد	نشانات	سوالات کی قسم
		طویل جوابی (E (Essay-Type) مختصر جوابی (S (Short Answer Type) مختصر ترین (VS (Very Short Answer) معروضی (O (Objective)
100	25	جملہ

(د) دشواری کی سطح کے لحاظ سے سوالات میں نشانات تقسیم کرنا۔ (Weightage to Difficulty Level)

فیصد	نشانات	دشواری کی سطح
		آسان اوسط شکل
100	25	جملہ

منصوبہ بندی کے دوران اوپر دیے گئے نمونوں کے لحاظ سے نسبی اہمیت (Weightage) کے جدول تیار کیے جاتے ہیں اور یہ بھی طے کیا جاتا ہے کہ نتیجہ سوالات کی اسکیم کیا ہوگی۔ مجموعی لحاظ سے اور ہر سیکشن کے لحاظ سے انتخاب کے طریقہ کار کا تعین کیا جاتا ہے۔

I

I
بلیو پرنٹ کی تیاری:

بلیو پرنٹ ایک تین رخنی چارٹ ہوتا ہے جس میں مواد متن (Content)، عمودی خط (Vertical Axis) اور مقاصد افقی خط

(Horizontal Axis) میں پیش کیے جاتے ہیں۔

یہ سہ العبادی چارٹ ان امور پر مشتمل ہوتا ہے

(1) مطلوبہ مقاصد

(2) مواد متن

(3) سوالات کی قسم

بلیو پرنٹ کا نمونہ

جملہ	مہارت			اطلاق			الفہیم			معلومات			مقاصد/اکائی
	E	S	O	E	S	O	E	S	O	E	S	O	
													اکائی-1
													اکائی-2
													اکائی-3
													اکائی-4
25													جملہ

III سوالات کی تیاری اور سوالنامے کی ترتیب:

تیار کردہ بلیو پرنٹ کی بنیاد پر اور مقاصد کو ذہن میں رکھ کر سوالات تیار کیے جاتے ہیں۔ پھر ان سوالوں کی درجہ بندی ان کی قسم کے لحاظ سے کی جاتی ہے اور انہیں مختلف حصوں (Sections) میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ہر حصہ کی ابتداء میں طلباء کے لیے واضح ہدایات درج کی جاتی ہیں۔

IV ٹیسٹ کا انعقاد:

SAT کا مقصد اسی وقت پورا ہوتا ہے جب اسے مناسب طور پر منعقد کیا جائے۔ ٹیسٹ کے انعقاد سے قبل ہی وقت اور مقام کا تعین کر لینا ضروری ہے۔ اگر یہ مناسب طور پر منعقد نہ کیا جائے تو عموماً ناقص نتائج سامنے آتے ہیں۔

V نشانات دینے کی اسکیم:

کسی بھی ٹیسٹ کی بھروسہ مندی (Reliability) کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ انعقاد سے قبل ہی نشانات دینے کی مکمل اسکیم تیاری کر لی جائے اور ساتھ ہی جوابات کی کلید (Key) بھی تیار کر لی جائے۔

VI ٹیسٹ کا تعین قدر:

- ٹیسٹ کا تعین قدران سوالوں کے جوابات سے طے کیا جاسکتا ہے۔
- (1) کیا طلباء کے حاصل کردہ نمبرات بہت زیادہ ہیں؟ اگر ہیں تو کیا پوچھے گئے سوالات بہت آسان تھے؟
 - (2) کیا طلباء نے نشانات بہت کم حاصل کیے؟ اگر جواب ہاں ہے تو کیا پوچھے گئے سوالات بہت مشکل تھے؟
 - (3) کیا ہدایات واضح تھیں؟
 - (4) کیا شبہات نے کسی بھی قسم کے شبہات کا اظہار کیا؟
- اس طرح کے تعین قدر سے معلم کو ٹیسٹ کے انعقاد کے مقصد میں کامیابی و ناکامی کا اندازہ ہوتا ہے۔

4.7 مشاہدہ کا مفہوم (Meaning of Observation)

- 4.7.1 مشاہدہ سے مراد ڈاٹا جمع کرنے کے مقصد سے کسی چیز کا معائنہ کرنا
- مشاہدہ کا مفہوم یہ ہے کہ کسی موزوں صورت حال میں کسی شخص کے ظاہر کردہ برتاؤ کا معائنہ کرنا۔
- روسو کے مطابق ”تم قدرت کو دیکھو اور اپنے طالب علم کا بغور مشاہدہ کرو، قبل اس کے کہ تم اسے کچھ کہو“۔
- مشاہدہ کو مخصوص (Specific)، منظم (Systematic)، مقداری (Quantitative) اور فی الفور ریکارڈ کیا جانے والا ہونا چاہیے۔
- مثلاً ایک انتشار کا شکار بچہ کو اسی وقت مشاہدہ کی جاسکتا ہے جب وہ 5 بچوں کے گروپ میں کھیل رہا ہو۔
- ☆ شرکتی (Participatory): - جس میں مشاہدہ کار اور جس کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے دونوں شریک رہتے ہیں۔
- ☆ غیر شرکتی (Non-Participatory): - جس میں مشاہدہ کار شریک نہیں رہتا بلکہ چھپا ہوا ہوتا ہے۔
- ☆ قابو کیا گیا (Controlled): - جس میں متغیرات قابو میں رکھے جاتے ہیں۔
- ☆ غیر قابو (Uncontrolled): - جس میں متغیرات پر مشاہدہ کار کا قابو نہیں ہوتا۔
- ☆ رسمی اور غیر رسمی (Formal & Informal): - رسمی مشاہدہ جس میں مشاہدہ کار اور جس کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے۔ دونوں کو اس عمل کا پتہ رہتا ہے۔ جبکہ غیر رسمی مشاہدہ وہ ہے جس میں بغیر کسی پیشگی اطلاع یا منظم کیے بغیر مشاہدہ کیا جاتا ہے۔
- ☆ خود کار مشاہدہ (Self Observation): - اگر کوئی شخص خود کے برتاؤ کا اور اپنے ذہنی اعمال (Mental Process) کا جائزہ لے تو اسے خود کار مشاہدہ کہتے ہیں۔
- ☆ ہم عمر ساتھیوں کا مشاہدہ (Peer Observation): - اگر کسی مخصوص سطح پر اور کسی مخصوص عمر کے گروپ کا ایک رکن اپنے ساتھی رکن کا مشاہدہ کرتا ہے تو اسے Peer مشاہدہ کہتے ہیں۔

4.7.2 روبرکس (Rubrics)

- روبرکس تعین قدر کا ایک ایسا آلہ ہے جس سے طلباء کے تعمیر کردہ پراجیکٹ اور پورٹ فولیو کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔
- روبرکس کے ذریعہ استاد طلباء کے مظاہرات کی بھی جانچ کرتا ہے۔

اشتراکی اکتساب (Collaborative Learning) کا سب سے عام اور بکثرت استعمال ہونے والا تعین قدر کا آلہ ویب پر مبنی روبرکس (Web Based Rubrics) ہے۔

اپنی معلومات کی جانچ (Check your progress)

1- مشاہدہ سے آپ کیا مفہوم مراد لیتے ہیں؟ بیان کیجیے۔

2- ہم عمر ساتھی کے مشاہدہ سے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں؟ مختصر بیان کیجیے۔

4.8 پورٹ فولیوز: مفہوم، اقسام، مقاصد، طریقہ عمل اور اطلاق

(Portfolios: Meaning, Types, Purposes, Process and Application)

4.8.1 پورٹ فولیوز کا تصور اور مفہوم:

پورٹ فولیوز مظاہراتی احتساب کی ایک مخصوص قسم ہے جس میں کسی بھی طالب علم کے کام کو کسی مخصوص مدت وقت اور مخصوص رہنمائی نہ خطوط کے مطابق جانچا جاتا ہے۔ فنکار، مصنفین، فوٹو گرافر اور دوسروں کے اپنے کام کو پورٹ فولیوز کے ذریعہ ظاہر کیا جاتا ہے۔ آج کل کلاس روم میں بھی اس کی مقبولیت بڑھتی جا رہی ہے۔

پورٹ فولیوز طلباء کے وہ کام ہوتے ہیں جو ان کے منتخب مظاہرات کو ظاہر کرتے ہیں۔ پورٹ فولیوز ایک فولڈر (Folder) بھی ہو سکتا ہے جس میں طالب علم کے منتخبہ Pieces کو یکجا کیا جاسکتا ہے جس سے ان کی خوبیوں اور خامیوں کا اندازہ لگایا جاسکے۔

4.8.2 پورٹ فولیوز کی اقسام (Types of Portfolio)

پورٹ فولیوز کی تین اہم اقسام ہیں:

(1) ورکنگ پورٹ فولیوز

(2) ڈسپلے فورٹ فولیوز

(3) احتسابی پورٹ فولیوز

☆ ورکنگ پورٹ فولیوز: اس کا نام ”ورکنگ“ اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اس میں طالب علم یا فرد کے کام کی ترقی یا مکمل کیے گئے کام/پراجیکٹ کے نمونے پیش کیے جاتے ہیں تاکہ انہیں ان کے کام کی بنیاد پر رینک دیا جائے۔

☆ ڈسپلے/نمائشی پورٹ فولیوز: ڈسپلے یا نمائشی پورٹ فولیوز سے مراد جب طلباء اپنے کام کو پورٹ فولیوز کے ذریعے پیش کرتے ہیں تو جو کام

بہترین ہوتا ہے اور جس کام پر طلبا اور اساتذہ فخر محسوس کرتے ہوں تو اس بہترین کام کو نمائش کے لیے منتخب کیا جاتا ہے۔
نمائش پورٹ فولیو کا مقصد طالب علم کی جانب سے بہترین سطح کے حامل کام کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے۔ اس نمائش پورٹ فولیو کو دیکھنے والوں
میں ساتھی طلبا، اساتذہ اور دیگر اہم شخصیات جیسے والدین، بہن بھائی وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔

☆ احتسابی پورٹ فولیوز (Assessment Portfolios): - اس قسم کا پورٹ فولیو ایک دستاویز ہوتا ہے جس میں طلبا نے کیا سیکھا، اس کا
اندر اچھ تفصیلات کے ساتھ کیا جاتا ہے۔

اس پورٹ فولیو میں کسی بھی نصابی مضمون، کوئی مدت، یا ایک اکائی کی یا مکمل نصاب، غرض کسی بھی پیمانہ پر طلبا کی مہارت (Mastery) کی
نمائندگی کی جاتی ہے۔

4.8.3 پورٹ فولیوز کے اطلاقات (Applications of Portfolio)

ذیل میں پورٹ فولیوز کے اطلاقات دیے جا رہے ہیں:

- ☆ بین شعبہ جاتی مطالعات کا تعین کرنے کے لیے
- ☆ مضمون کی مہارت کے اظہار کے لیے
- ☆ کالج میں داخلہ کے لیے
- ☆ روزگار میں منتخب ہونے کے لیے
- ☆ مہارتوں کے حصول کے لیے

اپنی معلومات کی جانچ (Check your progress)

1- پورٹ فولیوز کے تصور کو واضح کیجیے۔

2- پورٹ فولیوز کی مختلف اقسام کو سمجھائیے۔

4.9 یاد رکھنے کے نکات (Points to be Remembered)

- (1) تعمیریت اس مخصوص فلسفہ پر مبنی ہے کہ ہر فرد اپنے تجربات کی بنیاد پر اپنے علم کو تعمیر کرتا ہے اور اس سے اکتساب حاصل کرتا ہے۔
- (2) تعمیریت دو طرح کی ہوتی ہے۔ (i) حیاتیاتی تعمیریت (ii) سماجی تعمیریت
- (3) احتساب کے لیے مختلف آلات استعمال کیے جاتے ہیں جیسے تحصیل ٹسٹ، انیک ڈٹل ریکارڈ، کیومولیٹیو ریکارڈ، چیک لسٹ، ریٹیننگ

اسکیل، سوالنامہ وغیرہ۔

(4) پروفیسر ولیم کلیپٹرک کے مطابق بروجیکٹ ایک ایسی بامقصد سرگرمی ہے جو پورے دل سے سماجی ماحول میں کی جائے۔ پراجیکٹ کی

مختلف اقسام ہوتی ہیں۔

(5) ٹیسٹ ایک منظم عمل ہوتا ہے جو کسی شخص کی ایک سے زائد خصوصیات کو امدادی اسکیل یا پھر درجہ بندی نظام کے ذریعے پیش کرتا ہے۔

4.10 فرہنگ (Glossary)

تعمیریت	:	تعمیریت اس مخصوص فلسفہ پر مبنی ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہر فرد اپنے تجربات کی بنیاد پر اپنے علم کی تعمیر کرتا ہے اور اس سے اکتساب حاصل کرتا ہے۔
احساسی آلہ	:	ایسا آلہ جو طالب علم کی تحصیل سے متعلق شواہد اکٹھا کرے۔
انیک ڈوئل ریکارڈ	:	کمرہ جماعت میں یا باہر استاد طلباء کے برتاؤ کو وقت اور مقام کے تعین کے ساتھ ریکارڈ کرتا ہے جس سے آگے چل کر طلباء کی شخصیت کے اہم اوصاف کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ اس ریکارڈ کو انیکڈوئل ریکارڈ کہتے ہیں۔
کیومولیٹیو ریکارڈ	:	کیومولیٹیو ریکارڈ ایک جامع ریکارڈ ہوتا ہے جس میں ہر طالب علم کی ایک وقت سے دوسرے وقت تک کی تعلیمی ترقی کی رفتار اور نمونہ (Pattern) کو طولی (Longitudinal) اعتبار سے درج کیا جاتا ہے۔
پراجیکٹ پر مبنی اکتساب	:	ایسا اکتساب جسے مکتب پورے دل سے اور بامقصد سرگرمی کے ساتھ اور سماجی ماحول میں کرتا ہے پراجیکٹ پر مبنی اکتساب کہلاتا ہے۔
ٹیسٹ	:	ٹیسٹ ایک منظم عمل ہوتا ہے جو کسی شخص کی ایک یا ایک سے زائد خصوصیات کو امدادی اسکیل یا درجہ بندی نظام کے ذریعے بیان کرتا ہے۔
تحصیل	:	مطلوبہ سمت میں طلباء کے برتاؤ اور طرز عمل میں تبدیلی لانے کو تحصیل (Achievement) کہتے ہیں۔
اسکولی تحصیلی آزمائش	:	اسکول میں تربیت و اکتساب کے دور کے بعد کسی فرد کی کامیابیوں اور حصول علم کی جانچ کرنے والی آزمائش کو اسکولی تحصیلی آزمائش کہتے ہیں۔
مشاہدہ	:	کسی موزوں صورت حال میں کسی شخص کے ظاہر کردہ برتاؤ کا معائنہ کرنا۔
پورٹ فولیو	:	پورٹ فولیو مظارہاتی اکتساب کی ایک مخصوص قسم ہے جس میں کسی بھی طالب علم کے کام کو کسی مخصوص مدت وقت اور مخصوص رہنمایانہ خطوط کے مطابق جانچا جاتا ہے۔

4.11 اکائی کے اختتام کی سرگرمیاں (Unit End Exercises)

معروضی جوابات کے حامل سوالات؛

1- "ہر انسان کے دماغ میں موروثی طور پر پیدائش کے وقت سے ہی علم کی کچھ بنیادی اکائیاں پائی جاتی ہیں جسے اسکیمیا کہا جاتا ہے" تعمیریت کے تعلق سے یہ نظر یہ کس ماہر نفسیات کا ہے؟

(1) کینگھم (Cunningham) (2) کرو اور کرو (Crow & Crow)

(3) کیسویل (Caswell) (4) جین پیاجے (Jean Piaget)

2- تعمیریت کے مطابق استاد کا کردار ہوتا ہے۔

(1) سہولت رساں (2) مشق کرانا (3) بیان کرنا (Lecture) (4) سبھی

3- انیک ڈوئل ریکارڈ کے فائدے ہیں:

(1) طالباء کی شخصیت کے اوصاف کی صراحت کے ساتھ فراہمی (2) نئے اساتذہ کو طلبا کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔

(3) یہ طلبا کے Self Appraisal میں استعمال کے لیے ڈاٹا فراہم کرتا ہے۔ (4) سبھی

4- پراجیکٹ کے اصول نہیں ہیں۔

(1) مقصد کا اصول (2) سرگرمی کا اصول (3) حقیقت کا اصول (4) سرحاح کا اصول

5- شرکتی مشاہدہ کی خصوصیت ہے۔

(1) نمائندہ نمونہ عمومی طور پر چھوٹا ہوتا ہے۔ (2) ڈاٹا جمع کرنے میں وقت درکار ہوتا ہے

(3) کسی خاص فرد کی طرف جھکاؤ (4) فطری برتاؤ سے متعلق ڈاٹا کی تجمع

مختصر جوابات کے حامل سوالات؛

1- تعمیریت کی تعریف لکھئے اور اس کی اہم خصوصیات بیان کیجئے۔

2- تحصیل ٹیسٹ پر مختصر نوٹ لکھیں۔

3- ریٹنگ اسکیل اور چیک لسٹ کے مابین فرق کو واضح کیجئے۔

4- روبرکس سے کیا مراد ہے؟ بیان کیجئے۔

طویل جوابات کے حامل سوالات؛

1- سوالنامہ تیار کرتے وقت کن امور کو پیش نظر رکھنا چاہیے؟ مدلل بحث کیجئے۔

2- تعین قدر کے اہم آلات اور تکنیکوں کے بارے میں تفصیل سے لکھیے۔

3- پورٹ فولیو سے کیا مراد ہے، تعلیم کے میدان میں پورٹ فولیو کے کیا استعمالات ہیں؟ واضح کیجئے۔

4.1 مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں (Suggested Books for Further Readings)

- 1 American Educational Research Association (2000). *AERA position statement concerning high-stakes testing in prek-12 education*. Retrieved September 13, 2013, from www.aera.net/about/policy/stakes.htm
- 2 Assessment Reform Group, (2002). *Assessment for Learning: 10 Principles*. University of Cambridge.
- 3 Freeman, F.S. (1962). *Psychological Testing*. New York: Teachers College Press.
- 4 Goswami, M. (2013). *Measurement and Evaluation in Psychology and Evaluation*. Hyderabad: Neelkamal Publications Pvt. Ltd.
- 5 Nunnally, J.C. (1972). *Educational Measurement and Evaluation*. New York: McGraw Hill.
- 6 Remmers, H.H., Gage, N.L. & Francis, J. (1960). *A Practical Introduction to Measurement and Evaluation*. Harper and Brothers Publishers.

اکائی 5۔ ڈاٹا کا تجزیہ، بازرسی اور رپورٹنگ

(Data Analysis, Feedback & Reporting)

اکائی کے اجزا

5.1 تمہید (Introduction)

5.2 مقاصد (Objectives)

5.3 شماریاتی تکنیکوں کا استعمال کرتے ہوئے طلباء کی کارکردگی کا تجزیہ

(Analysis of Students' Performance using Statistical Techniques)

5.3.1 ڈاٹا کے جانچ کی عمل آوری (Processing of Test Data)

5.3.2 تعدتی تقسیم کاری (Frequency Distribution)

5.3.3 تشریحی پیش کش (Graphical Representation)

5.3.4 مرکزی رجحان (Central Tendency)

5.3.5 انحراف (Variation)

5.3.6 عمودی احتمالی منحنی (Normal Probability Curve-NPC)

5.3.7 فیصد (Percentages)

5.3.8 فیصد تقسیم (Percentile)

5.3.9 فیصد تقسیم رینک (Percentile Rank)

5.3.10 ارتباط (Correlation)

5.3.11 گریڈ پوائنٹ اوسط (Grade Point Average)

5.4 تشریح (Interpretation)

5.4.1 شماریاتی تکنیکوں کی بنیاد پر تشریح (Interpretation based on Statistical Measures)

5.4.2 تشریح کے لیے حوالہ جاتی بنیاد (Frame of Reference for Interpretation)

5.4.2.1 نارم حوالہ جات (Norm Reference)

5.4.2.2 کرائی ٹیرین حوالہ جات (Criterion Reference)

(Self Reference) خدحوالہ جات	5.4.2.3	
بازرسی (Feedback)	5.5	
بازرسی کے معنی و اقسام (Meaning & Types)		
موثر بازرسی کی خصوصیات و فوائد (Characteristics & Benifits of Effective Feedback)		
تشکیلی ا سسمیٹ کے ایک اہم جز کے طور پر بازرسی	5.5.1	
(Feedback as an essential Component of Formative Assessment)		
بازرسی کا استعمال (Uses of Feedback)	5.5.2	
فن تدریس کے متعلق فیصلہ لینے کے لیے (For Taking Pedagogical Decisions)	5.5.2.1	
مزید اکتساب کے لیے (For Further Learning)	5.5.2.2	
اساتذہ کے ذریعے بازرسی: تحریری اور زبانی (Teachers' Feedback: Written & Oral)	5.5.3	
ساتھی طلباء کے ذریعے بازرسی (Peer Feedback)		
نشانات، گریڈس اور کیفیاتی بیان کی اہمیت (Place of Marks, Grades & Qualitative Descriptions)	5.5.4	
رپورٹنگ (Reporting)	5.6	
رپورٹنگ کے معنی و اقسام (Meaning & Types)		
اچھی رپورٹنگ کی خصوصیات (Characteristics of Good Reporting)		
رپورٹنگ کے مقاصد (Purpose of Reporting)	5.6.1	
طلباء کی پروفائل و پیش رفت بتانے کے لیے	5.6.1.1	
(To Communicate Progress & Profile of Learner)		
فن تدریس کے متعلق فیصلے لینے کے لیے بنیاد	5.6.1.2	
(Basis for Further Peadagogical Decissions)		
طلباء کی جامع پروفائل کی تشکیل اور اُس کا نظم	5.6.2	
(Developing & Maintaining Comprehensive Learner Profile)		
طلباء کی مجموعی پروفائل کی رپورٹنگ (Reporting a Consolidated Learner Profile)	5.6.3	
یاد رکھنے کے نکات (Points to be Remembered)	5.7	
فرہنگ (Glossery)	5.8	
اکائی کے اختتام کی سرگرمیاں (Unit End Exercises)	5.9	
مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں (Suggested Books for Further Readings)	5.10	

یہ اکائی چار ذیلی اکائیوں پر مشتمل ہے: پہلی - شماریاتی تکنیکوں (Statistical Techniques) کا استعمال کرتے ہوئے طلباء کی کارکردگی کا تجزیہ (Analysis of Students' Performance)، دوسری - تشریح (Interpretation) [شماریاتی تکنیکوں کی بنیاد پر تشریح اور اس کے لیے حوالہ جاتی بنیاد (Frame of Reference for Interpretation)]، تیسری: بازری (Feedback) اور چوتھی: رپورٹنگ (Reporting)۔ کسی بھی فرد یا افراد کے گروہ یا کارکردگی کو سمجھنے یا تحقیق کے لیے اس سے متعلق ڈاٹا کو یکجا کیا جاتا ہے۔ یہ ڈاٹا اس فرد یا افراد کو سمجھنے میں بہت مدد کرتے ہیں۔ ڈاٹا کو اکٹھا کرنے کے بعد مختلف شماریاتی تکنیکوں کا استعمال کر کے اس کا تجزیہ کیا جاتا ہے اور اس کو ترسیبی طور پر پیش بھی کیا جاتا ہے جس سے وہ آسانی سے سمجھ میں آسکے۔ مختلف شماریاتی تکنیکوں و اس کے استعمال کی معلومات ہونا طلباء کو ضروری ہے جس سے وہ اس کی صحیح تشریح کر سکیں، موازنہ کر سکیں اور نتائج کے بناء پر صحیح فیصلہ لے سکیں۔ مندرجہ بالا ضرورت کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس اکائی میں شماریات اور اس کی اہمیت و ضرورت، ڈاٹا کی تعددی تقسیم کاری، تشریحی پیش کش ڈاٹا کا تجزیہ، مختلف شماریاتی آلات جیسے مرکزی رجحانات کی پیمائش، انحراف کی پیمائش، عمودی احتمالی منحنی (Normal Probability Curve-NPC)، فیصد (Percentages)، فیصد تقسیم (Percentile)، فی صد تقسیم رینک (Percentile Rank)، ارتباط (Correlation)، گریڈ پوائنٹ اوسط (Grade Point Average)، شماریاتی تکنیکوں کی بنیاد پر تشریح (Interpretation)، تشریح کے لیے حوالہ جاتی بنیاد (Frame of Reference for Interpretation) مثال کے طور پر نام حوالہ جات (Norm Reference)، کرائی ٹیرین حوالہ جات (Criterion Reference)، خود حوالہ جات (Self Reference) وغیرہ کو تفصیل سے پیش کیا گیا ہے۔ اس کو پڑھ کر آپ اس لائق بن سکیں گے کی طلباء کی کارکردگی کی پیمائش میں اس کا استعمال منظم انداز میں کر سکیں۔ اس اکائی میں عمودی تقسیم کاری کے تصور اور استعمال کو تعلیمی جانچ کے تناظر میں پیش کیا گیا ہے۔ اسی طرح کسی بھی فرد یا سسٹم کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے بازری اور رپورٹنگ بہت ہی لازمی جز ہیں۔ اس اکائی میں بازری اور رپورٹنگ کے معنی و اقسام، ان کی خصوصیات، مقاصد و استعمال اور اقسام کو بیان کیا گیا ہے۔ اس میں تشکیلی احتساب بازری کے ایک اہم جز کے طور پر اور بازری کے دو اہم استعمال یا بنیادیں تعلیمی فیصلہ لینے کے لیے اور مزید اکتساب کے لیے کیا جاتا ہے کی وضاحت کی گئی ہے۔ بازری میں نشانات، گریڈس اور کیفیاتی بیان کا کیا مقام ہے اس کو بھی اس اکائی میں بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح رپورٹنگ کے مقاصد کے طور پر طلباء کی پروفائل و پیش رفت بتانے کے لیے اور تعلیمی فیصلے لینے کے لیے بنیاد، کو بھی اجاگر کیا گیا ہے۔ آخر میں طلباء کی جامع پروفائل کی تشکیل و اس کا نظم اور ان کی مجموعی پروفائل کی رپورٹنگ کیسے کریں گے، اس کی بھی وضاحت کی گئی ہے۔ اس اکائی کے اختتام پر فرہنگ (Glossery)، یاد رکھنے کے نکات، نمونہ امتحانی سوالات اور سفارش کردہ کتابیں کو بھی قلم بند کیا گیا ہے۔

اس اکائی کا مطالعہ کرنے کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ:

☆ شماریات کے معنی اہمیت و ضرورت کی وضاحت کر سکیں۔

- ☆ ڈاٹا کی گروہ بندی، جدول سازی اور تعددی اقسام میں پیش کر سکیں۔
- ☆ ڈاٹا کی تریسی پیش کش کے مفہوم و اقسام سے روبرو ہو سکیں۔
- ☆ مرکزی رجحان کی پیمائش کر سکیں۔
- ☆ انحراف کی پیمائش سے واقف ہو سکیں۔
- ☆ عمودی تقسیم کاری اور عمودی احتمالی منحنی کے تصور کی وضاحت کر سکیں۔
- ☆ عمودی احتمالی منحنی (NPC) کی خصوصیات لکھ سکیں۔
- ☆ کج پن (Skewness) اور کوہانیت (Kurtosis) کی اہمیت کی تعلیمی پیمائش اور تعین قدر میں ادراک کر سکیں۔
- ☆ تعلیمی پیمائش (جانچ اور تعین قدر) میں عمودی منحنی کی اہمیت کا ادراک کر سکیں۔
- ☆ عمودی منحنی کے تحت رقبوں کے جدول کو پڑھ سکیں۔
- ☆ تعلیمی تعین قدر کے عمل اور ذہنی پیمائش سے متعلقہ مسائل کے حل کے لیے عمودی احتمالی منحنی کے علم کا استعمال کر سکیں۔
- ☆ متعین کردہ فی صد تقسیم کی تعریف بیان کر سکیں اور اسے محسوب کر سکیں۔
- ☆ حاصل شدہ فی صد تقسیم کی تفہیم کر سکیں۔
- ☆ تدریسی و اکتسابی عمل میں بہتری کی خاطر کلاس روم کے حالات میں موزوں انتشار کی پیمائش کا استعمال کر سکیں۔
- ☆ ارتباط کی و شرح ارتباط کی تعریف بیان کر سکیں۔
- ☆ محصلہ نشانات کی نوعیت اور ان کے تقسیم کاری کے مطابق شرح ارتباط محسوب کر سکیں۔
- ☆ حاصل شدہ نتائج یعنی شرح ارتباط کی وضاحت کر سکیں۔
- ☆ ارتباط کی اہمیت کو واضح کر سکیں۔
- ☆ بازرسی کے معنی و اقسام بتا سکیں۔
- ☆ موثر بازرسی کی خصوصیات و قواعد کو بیان کر سکیں۔
- ☆ تشکیل احتساب بازرسی کا ایک اہم جز ہے اس کی وضاحت کر سکیں۔
- ☆ بازرسی کا استعمال مزید تعلیمی فیصلہ لینے کے لیے اور مزید اکتساب کے لیے کیسے کیا جاسکتا ہے اس کی وضاحت کر سکیں۔
- ☆ اساتذہ اور ساتھی طلباء کے ذریعہ کی جانے والی بازرسی کے بارے میں تفصیل سے بتا سکیں۔
- ☆ رپورٹنگ کے معنی اور اقسام اور خصوصیات کو بیان کر سکیں۔
- ☆ طلباء کی مجموعی پروفائل کی رپورٹنگ واضح اور موثر طریقہ سے پیش کر سکیں۔

5.3 شماراتی تکنیکوں کا استعمال کرتے ہوئے طلباء کی کارکردگی کا تجزیہ

(Analysis of Students' Performance using Statistical Techniques)

طالب علم کی کارکردگی کی معلومات حاصل کرنے اور اس کے تجزیہ کرنے کے لیے مختلف شماراتی تکنیک استعمال میں لائی جاتی ہے مثال

کے طور پر ڈاٹا کو جمع کرنا اور اُس کی تنظیم، ڈاٹا کی درجہ بندی، جدول سازی، ڈاٹا کی تریسی پیش کش، مرکزی رجحانات کی پیمائش، انحراف کی پیمائش، Quartile, Decile, Percentil وغیرہ کی پیمائش، NPC کا استعمال کرنا، ارتباط کی پیمائش وغیرہ۔ وغیرہ۔ اس کورس کے مواد میں ایسی ہی کچھ شماریاتی تکنیکی تفصیل سے پیش کی گئی ہے جس سے طلباء اس کا استعمال کرنا سیکھ سکیں۔

5.3.1 جانچ کے ڈاٹا پر عمل آوری (Processing of Test Data)

طالب علم کی کارکردگی کی معلومات حاصل کرنے کے لیے معلم کو مختلف شماریاتی تکنیک کی معلومات ہونا ضروری ہے۔ شماریاتی تکنیک کو سمجھنے سے پہلے شماریاتی کا مفہوم سمجھنا ضروری ہے۔ شماریات اعداد و شمار کی سائنس ہے۔ شماریات کو ڈاٹا کی درجہ بندی اور تنظیم کی سائنس کہا جاسکتا ہے جس کے ذریعے سے نتائج اخذ کیے جاتے ہیں۔ شماریات کا تعلق ڈاٹا کے جمع کرنے، پیش کرنے، تجزیہ کرنے اور ڈاٹا کو استعمال کرنے سے ہے۔ شماریات کا تعلق ڈاٹا فراہم کرنے، اس کی تنظیم، پیش کش اور تجزیہ کے سائنٹیفک طریقوں کے ساتھ ساتھ اُس تجزیہ سے معقول نتائج اور موضوع سازی کرنے سے ہے۔ اس کا واسطہ اعدادی ڈاٹا کے منظم طریقہ سے جمع کرنے کے عمل اور اُس کی تفہیم سے ہے۔ منظم طریقہ سے یہ معلومات کی فراہمی شماریات کو دیگر معلومات سے امتیاز کرتی ہے۔ ایک معلم کو طالب علم کی کارکردگی کا تجزیہ کرنا ہو یا پھر پیمائش کے لیے کوئی آلہ بنانا ہو ہر جگہ شماریات کے علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح کسی بھی تحقیق میں ڈاٹا کو جمع کیا جاسکتا ہے لیکن شماریاتی تکنیک کا استعمال کیے بنا نتائج نہیں نکالا جاسکتا ہے۔ ڈاٹا کی درجہ بندی جدول سازی اور تجزیہ شماریات کے علم کے بغیر نہیں کیا جاسکتا۔ اس طرح شماریات ڈاٹا کو مختصر میں پیش کرنے، نتائج نکالنے اور فیصلہ سازی کے لیے ضروری ہے۔

ڈاٹا (Data)

ڈاٹا کسی حقائق کی اعدادی شکل ہے جو کسی چیز کی مقدار اور خصوصیات کے بارے میں بتاتا ہے۔ آپ روزانہ اخبار کا مطالعہ کرتے ہی ہوں گے۔ کم وبیش ہر اخبار میں گزشتہ روز کے اقل ترین (Minimum) اور عظیم ترین (Maximum) درجہ حرارت کا ریکارڈ دیا جاتا ہے۔ ان میں ریکارڈ کی گئی بارش اور سورج کے طلوع و غروب کا وقت بھی دیا جاتا ہے۔ اسکول میں آپ روزانہ بچوں کی حاضری لیتے ہیں اور اسے رجسٹر میں ریکارڈ کرتے ہیں ایک مریض کے لیے ڈاکٹر متعین اوقات پر درجہ حرارت ریکارڈ کرنے کی ہدایت دیتا ہے۔ اگر آپ شہر کا اقل ترین اور عظیم ترین درجہ حرارت بارش کی مقدار، طلوع و غروب آفتاب کا وقت، بچوں کی حاضری، یا وقفے وقفے سے مریض کا درجہ حرارت ریکارڈ کرتے ہیں تو آپ کے ذریعہ ریکارڈ کردہ معلومات ڈاٹا کہلاتی ہیں۔ یعنی آپ یہاں شہر کا اقل ترین اور عظیم ترین درجہ حرارت، بارش کا ڈاٹا، طلوع آفتاب کے اوقات اور بچوں کی حاضری کا ڈاٹا ریکارڈ کرتے ہیں۔ ڈاٹا کی نوعیت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ڈاٹا کہ مندرجہ ذیل اقسام کا مطالعہ کر لیا جائے۔

(1) کیفیتی اور کمیتی ڈاٹا (Qualitative and Quantitative Data)

(2) مسلسل اور منفصل ڈاٹا (Continuous and Discrete Data)

(3) ابتدائی اور ثانوی ڈاٹا (Primary and Secondary Data)

(1) کیفیتی اور کمیتی ڈاٹا (Qualitative and Quantitative Data): آئیے جدول 1 میں دیئے گئے ڈاٹا پر غور کریں:

جدول 5.1: پیشہ وارانہ دلچسپی کی بنیاد پر طلباء درجہ بندی

طلباء کی تعداد	پیشہ وارانہ کورس (Professional Courses)
62	میڈیکل (Medical)
97	انجینئرنگ (Engineering)
40	ٹیچنگ (Teaching)
24	کلرکل (Clarial)
223	کل (Total)

جدول 5.1 میں پیشہ وارانہ دلچسپی کی بنیاد پر طلباء کو زیادہ پسند کیے جانے والے پیشہ کو دیکھا گیا ہے۔ اس قسم کے ڈاٹا کی نوعی یا کمیٹی ڈاٹا کہتے ہیں۔ یہاں ہر نوع یا کیفیت پیشہ وارانہ کورس ہے۔ اس طرح کیفیت ڈاٹا ان معلومات کا نتیجہ ہوتا ہے جن کی درجہ بندی کی جاسکے۔ یہ درجہ بندی حروف تہجی کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے یا کم ہوتے ہوئے تعداد (Decreasing Frequency) کے اعتبار سے بھی یا پھر کسی بھی روایتی طریقہ پر مبنی ہو سکتی ہے۔ ڈاٹا کا ہر جز ایک درجہ بندی یا نوع سے تعلق رکھتا ہے۔

(2) مسلسل اور مفصل ڈاٹا (Continuous and Discrete Data): کمیٹی یا مقداری ڈاٹا اپنے زیر مشاہدہ عناصر یا اشیا کے اعتبار سے مسلسل (Continuous) یا مفصل (Discrete) ہو سکتا ہے۔ آئیے جدول 5.2 پر نظر ڈالیں جو ایک کلاس میں طلباء کے وزن کو ظاہر کرتا ہے۔

جدول 5.2: کلاس کے طلباء کی وزن کے بنیاد پر درجہ بندی

طلباء کی تعداد	وزن (Weight)
10	40-42 کلو
8	42-44 کلو
5	44-46 کلو
2	46-48 کلو
25	کل

جدول 5.2 میں طلباء کے وزن سے متعلق ڈاٹا دیا گیا ہے کسی طلباء کا 40 سے 42 کلو کے درمیان کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ دو طلباء کے وزن میں قریب - قریب کلو نہیں بلکہ گرام اور ملی گرام کا بھی فرق ہو سکتا ہے اگر ہم اُس فرق کو بھی لیں تو 40 سے 42 کلو کے درمیان 40.25, 40.50, 40.75, 41.0 وغیرہ کئی قیمتیں ہو سکتی ہے۔ اس طرح کے ڈاٹا مسلسل ڈاٹا کہا جاسکتا ہے کیونکہ وزن مسلسل ہے۔ اس طرح جدول 5.1 میں مختلف پیشوں میں دلچسپی دیکھانے والے طلباء کی تعداد دی گئی ہے جس میں کل 223 طلباء میں میڈیکل میں دلچسپی دکھانے والے طلباء کی تعداد 62 دی گئی ہے۔ فرض کیجیے کہ میڈیکل میں دلچسپی لینے والے طلباء کی تعداد کم یا زیادہ ہوتی تو 61 یا 63 طلباء ہی ہوتے 62 سے 61 یا 62 سے

63 کے درمیان کوئی دوسری عدد نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ داخلہ صرف صحیح عدد (Whole Number) میں ہی ہو سکتا ہے۔ اس طرح 62 سے 61 یا 62 سے 63 کے درمیان ایک اکائی کا فاصلہ ہے۔ اس قسم کا ڈاٹا جس میں زیر مشاہدہ عناصر میں فاصلے موجود ہوں وہ مفصل ڈاٹا (Discrete Data) کہلاتا ہے۔

(3) ابتدائی اور ثانوی ڈاٹا (Primary and Secondary Data): جب کوئی فرد کسی وقوع مخصوص منصوبہ یا نمونہ کے متعلق ڈاٹا یا معلومات جمع کرتا ہے اور اس کا استعمال کرتا ہے تو ایسا ڈاٹا ابتدائی ڈاٹا کہلاتا ہے۔ ابتدائی ڈاٹا ایسا ڈاٹا ہے جو کسی فرد یا افراد کے ذریعے خود جمع کیا گیا ہو یہ ان کی نمائندگی کرتا ہو جو ڈاٹا کا استعمال کرتے ہیں۔ جیسے استاد کے ذریعے کلاس میں بچوں کی لی جانے والی حاضری، ان کے امتحان کے نتائج وغیرہ جیسے ابتدائی ڈاٹا ہے جسے استاد اپنے طلباء کی تعلیمی لیاقت معلوم کرنے کے لیے حاصل کرتا ہے۔ وہ ڈاٹا جو کسی فرد یا افراد کے ذریعے استعمال میں تو آئے مگر ان کے ذریعے جمع نہ کیا گیا ہو ثانوی ڈاٹا کہلاتا ہے بعض اوقات آپ کے ذریعے حاصل کردہ ڈاٹا کوئی دوسرا فرد یہ محقق استعمال کرتا ہے۔ جیسے کسی محقق کا کسی اسکول بچوں کی حاضری یا امتحانات کے نتائج یا طلباء کی کارکردگی متعلق حاصل کیا گیا ڈاٹا ثانوی ڈاٹا کہلاتا ہے۔ کئی وجوہات کی بنا پر ہمیں ثانوی ڈاٹا استعمال کرنا پڑتا ہے اس کا استعمال نہایت احتیاط کے ساتھ کیا جانا چاہے کیونکہ اس کے جمع کرنے کا مقصد محقق کے مقصد سے مختلف ہوتا ہے۔ اور اس میں بعض تفصیلات چھوٹ سکتی ہیں یا مکمل طور پر متعلق نہیں ہو سکتیں۔

ڈاٹا کی تواتر میں پیش کش:

ڈاٹا کو منظم کرنے کا سادہ ترین طریقہ اسے تواتر (Sequence) میں پیش کرنا ہے۔ جب ڈاٹا چند ایک اندراجات ہی ہوں اس وقت بھی تواتر میں پیش کش اس کو سمجھنے کے لیے آسان بنا دیتی ہے۔ مثال کے طور پر جدول 5.3 میں 16 بچوں کا ریاضی میں حاصل کردہ اسکور دکھایا گیا ہے:

جدول 5.3: 16 بچوں کا ریاضی میں حاصل کردہ اسکور

مضمون	حاصل کردہ اسکور
ریاضی	88,93,97,22,30,35,38,40,42,45,61,78,47,64,66,58

ان اعداد و شمار سے بچوں کے قدر کے بارے میں بہت کم کہا جاسکتا ہے۔ مثلاً آپ اقل ترین اور اعظم ترین اعداد دیکھنا چاہیں یا سب سے زیادہ واقع ہونے والا عدد۔ اگر آپ کوشش بھی کریں تو آپ کو ان اعداد و شمار کو کسی نہ کسی طریقے سے دوبارہ منظم اور مرتب کرنا ہوگا۔ عام طور پر ڈاٹا کو دو طریقوں سے مرتب کیا جاسکتا ہے۔ پہلا اقل ترین سے شروع کر کے اعظم ترین کی ترتیب میں جسے صعودی ترتیب (Ascending Order) کہتے ہیں اور دوسرا اعظم ترین سے شروع کر کے اقل ترین کی ترتیب میں جسے نزولی ترتیب (Descending Order) کہتے ہیں۔ اب اس ڈاٹا کو اقل ترین سے اعظم ترین (صعودی ترتیب) میں ترتیب دیجیے جیسا کہ جدول 5.4 میں پیش کیا گیا ہے:

جدول 5.4: 16 بچوں کا ریاضی میں حاصل کردہ اسکور صعودی ترتیب (Ascending Order) میں

مضمون	حاصل کردہ اسکور صعودی ترتیب (Ascending Order) میں
ریاضی	22,30,35,38,40,42,45,47,61,64,66,78,88,93,97

مرتب ڈاٹا پر ایک سرسری نظر ڈالنے سے ہی یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ بچوں کا ریاضی میں حاصل کردہ اسکور 22 سے 97 سمر کی

وسعت (Range) میں ہے۔

5.3.2 تعدادی تقسیم کاری (Frequency Distribution)

ڈاٹا کو بغیر گروہ بندی کے مطالعہ کرنا کافی زحمت طلب ہے۔ خواہ یہ ترتیب میں منظم ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے ڈاٹا کو گروپ میں منظم کیا جاتا ہے جسے کلاس یا جماعت کہتے ہیں اور ایک جدول میں پیش کرتے ہیں جس میں ہر گروپ کی تعداد دی جاتا ہے۔ اس طرح کا تعدادی جدول ڈاٹا کے تقسیم کی بہتر مجموعی تصویر پیش کرتا ہے اور اس سے ڈاٹا کی اہم خصوصیات کو تیزی سے سمجھا جاسکتا ہے۔ اسی کو ڈاٹا کی گروہ بندی اور جدول سازی کرنا کہتے ہیں اور تیار شدہ جدول ہی ڈاٹا کی تعدادی تقسیم کاری (Frequency Distribution) کہلاتی ہے۔ مثال کے طور پر درجہ ہشتم کی 50 طلباء کی ایک کلاس میں سائنس کا ایک ٹسٹ رکھا گیا اور طلباء کے ذریعے حاصل کردہ مارکس کو جدول 5.5 میں پیش کیا گیا ہے:

جدول 5.5 Class Length Range

Class	Marks Obtained by the Students
8th Standard	52,35,49,55,53,39,50,54,36,28,48,51,45,42,44,46,42,49,46,48,43,45,39,36,40,38 40,37,35,44,46,30,41,37,41,50,47,47,43,39,44,39,33,42,36,40,43,38,32,41

جدول 5.5 کے مطالعے سے آپ دیکھیں گے کہ مارکس 28 سے 55 کی وسعت (Range) میں ہیں لیکن اگر آپ مجموعی کارکردگی دیکھنا چاہیں تو یہ مشکل کام ہوگا۔ اب اسی مارکس کے سیٹ کی گروہ بندی اور جدول سازی کر کے اگر اس کی تعدادی تقسیم کاری تیار کی جائے تو اس سے ہم بہت سی معلومات اخذ کر سکتے ہیں۔ ڈاٹا کو تعدادی تقسیم کاری کی شکل میں پیش کرنے کے چند مراحل ہے جو حسب ذیل ہے:

1- تعدادی تقسیم کاری بناتے وقت سب سے پہلا کام نشانات کا فاصلہ یا وسعت (Range) معلوم کرنا ہے۔ فاصلہ بتاتا ہے کہ دیے گئے نشانات کتنی دوری میں پھیلے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں کہا جاسکتا ہے کہ سب سے عظیم ترین نشانات اور سب سے کم ترین نشانات کے بیچ کی دوری ہی فاصلہ یا وسعت کہلاتی ہے جس کا فارمولہ یہاں دیا گیا ہے: $Range = (Highest\ Score - Lowest\ Score)$ جیسے جدول میں طلباء کے ٹسٹ میں عظیم ترین نشانات 55 اور کم ترین نشانات 28 ہیں تو اس کے لیے فاصلہ (Range) حسب ذیل طریقہ سے معلوم کر سکتے ہیں: $Range = (55 - 28) = 27$

2- دوسرا مرحلہ جماعتوں کی تعداد (Number of class) اور وقفہ جماعت (Size of class) معلوم کرنا ہے۔ کل تعداد کو کچھ چھوٹے چھوٹے یکساں حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں جنہیں جماعت کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں جماعتوں کی تعداد طے کرنا ہے۔ عام طور پر 6 سے 20 تک مساوی جماعتیں لی جاتی ہیں۔ اگر حاصل کردہ نشانات مشاہدات کی تعداد کافی زیادہ ہے تو بالعموم ہم 10 سے 20 جماعتیں لیتے ہیں۔ 10 سے کم جماعتیں اسی وقت لیتے ہیں جب حاصل کردہ نشانات تعداد کی اقدار بہت زیادہ نہ ہو۔ جملہ جماعتوں کی تعداد معلوم کرنے کے لیے ہمیں حاصل کردہ نشانات کی وسعت معلوم کرنی ہوگی۔ جدول 5.5 میں حاصل کردہ نشانات کی وسعت 28 ہے

- جماعت وقفہ کی طوالت 2, 3, 5, 10 اور 20 تک منتخب کی جاتی ہے۔ یہاں اگر ہم جماعتی طول 5 لیتے ہیں تو وقفہ جماعت $5.6 = 28/5$ یا 6 ہوگا جو کہ مطلوبہ تعداد سے کم ہے۔ اگر ہم جماعتی طول 10 لیں تو وقفہ جماعت $2.8 = 28/10$ یا 3 ہوگا جو قابل قبول ہے۔ جماعتوں کو وقفہ جماعت بھی کہتے ہیں۔ ہر جماعتی وقفہ (Class Interval) میں فاصلہ نشانات یا اقدار کی وسعت یکساں ہے۔ دی گئی مثال میں پہلا جماعتی وقفہ 54 سے 56 ہے جس کی وسعت 3 مارکس ہے یعنی 54, 55, 56۔ یہاں 54 نچلی جماعتی حد ہے اور 56 اوپری جماعتی حد۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ 54 کا اسکور 53.5 سے 54.5 تک کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے درست نچلی جماعتی حد 54 کے بجائے 53.5 ہے۔ اسی طرح درست اوپری جماعتی حد 56 کے بجائے 56.5 ہے۔ جماعتی وقفہ کی وسعت $3 = 56.5 - 53.5$ ہے یعنی اوپر جماعتی حد اور نچلی جماعتی حد کے درمیان کا فرق۔

3- تیسرا مرحلہ ٹیلی (Tally) کا نشان لگانے کا مرحلہ ہے۔ جدول 5.5 میں مختلف جماعت لکھنے کے بعد ان میں آنے والے نشانات کو معلوم کرنے کے لیے ٹیلی (Tally) نشان لگائے جاتے ہیں۔ یہ نشان حقیقت میں چھوٹی بڑی خط ہوتی ہے جو نشانات کی تعداد یا اسکور بتاتی ہے۔ ٹیلی (Tally) نشان لگانے کے لیے اسکور کو ایک ایک کر کے دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس جماعت میں آتے ہیں۔ جس جماعت میں کوئی اسکور آتا ہے اُس جماعت میں آگے پہلے نشان ایک کھڑی خط کی شکل میں لگائے جاتے ہیں۔ اسی طرح کی کھڑی خط یعنی ٹیلی (Tally) نشان سبھی اسکورز کے لیے لگائی جاتی ہے۔ ہر اسکور کے لیے ایک ٹیلی (Tally) نشان لگانی ہوتی ہے۔ ٹیلی (Tally) لگاتے وقت جب کسی جماعت میں چار ٹیلی (Tally) ہو جاتی ہے تو پانچویں ٹیلی (Tally) پہلی لگی چاروں ٹیلی (Tally) کے اوپر بائیں طرف سے دائیں طرف ترچھی خط کھینچ کر لگاتے ہیں۔ جس سے پانچ پانچ ٹیلی (Tally) کا گروپ بن جائے اور گنتی کرنے میں آسانی ہو۔ جس طرح جدول 5.6 میں ٹیلی (Tally) نشانات لگائے گئے ہیں۔

4- سبھی Score کے لیے Tally لگانے کے بعد مختلف جماعتوں میں آئے Tally نشانات کی گنتی کر کے Frequency والے Column میں لکھ دیتے ہیں۔ یہی ان جماعتوں کی Frequency ہوتی ہے جس کو جمع کر کے Frequency کی کل تعداد معلوم کر لیتے ہیں۔

جدول 5.6: مارکس کے سیٹ کو جدول کی شکل میں ترتیب

تعداد (Frequency)	جماعت (Class)
2	54-56
3	51-53
6	48-50
7	45-47
9	42-44
10	39-41
7	36-38
3	33-35
2	30-32
1	27-29

جدول 5.6 سے معلوم ہوتا ہے کہ مختلف جماعت (کلاس) میں کتنے طلباء آتے ہیں۔ مثلاً 7 طلباء نے 45-47 نشانات حاصل کیے ہیں۔ اسی طرح دس طلباء نے 39-41 کے درمیان نشانات حاصل کیے ہیں۔ نشانات کے اقسام کو سمجھنے کے لیے تعدادی اقسام اہم رول ادا کرتا ہے

5.3.3 ڈاٹا کی ترتیبی پیش کش (Graphical Presentation of the data)

جو ڈاٹا جدول کی شکل میں دکھایا گیا ہے اسے تصویری شکل میں گراف یا ترسیم کا استعمال کر کے دکھایا جاسکتا ہے۔ ایک اچھا ترتیبی مظاہرہ دیے گئے ڈاٹا کے اظہار کا آسان ترین طریقہ ہے۔ یہاں پر ڈاٹا کی پیش کش کرنے والی چند معیاری شکلوں کا ہی تذکرہ کیا جاتا ہے۔

- (a) ہسٹوگرام (Histogram)
- (b) بارخاکہ یا بارگراف (Bar diagram or graph)
- (c) پائی ڈائیگرام (Pie-Diagram)
- (d) تعدادی کثیرضلعی (Frequency Polygon)
- (e) مجموعی تعداد منحنی (Cumulative Frequency Curve) و او جانیو (Ogive)

(a) ہسٹوگرام (Histogram)

ڈاٹا کی ترتیبی (Graphical) پیش کش کی سب سے عام شکل ہسٹوگرام ہے۔ ایک ہسٹوگرام بنانے کے لیے ترتیبی پیپر (Graph Paper) کی ضرورت ہوتی ہے۔ متغیر کی اقدار کو افقی محور پیمانے پر لیتے ہیں جسے X-axis کہتے ہیں اور تعداد کو عمودی محور پیمانے پر دکھایا جاتا ہے جسے Y-axis کہتے ہیں۔ ہر جماعت وقفہ کے لیے ایک مستطیل (Rectangle) کھینچا جاتا ہے جس کی اساس (چوڑائی) جماعتی وقفہ کے طول کے برابر


اونچائی جماعتی وقفہ کے تعدد کے تناسب میں ہونا چاہیے۔ اگر جماعتی وقفہ غیر مساوی طول (Length) کا حامل ہو تو مستطیلوں کے رقبے ان سے متعلقہ تعداد کے ساتھ تناسب میں ہونے چاہیں۔ چونکہ کسی بھی متغیر کے لیے جماعتی وقفہ تسلسل میں ہوتا ہے، مستطیلوں کا اساس بھی ایک حد سے دوسری تک تسلسل میں بڑھتا ہے۔ جماعتی وقفوں کی یہ سرحدیں انٹی پیمانے پر ظاہر کی جاتی ہیں۔ مستطیلوں کی اونچائی دریافت کرنے کے لیے تعداد کو عمودی پیمانے پر دکھایا جاتا ہے۔

مثال (1) جدول 5.7 میں دی گئی تعدادی تقسیم کاری کے لیے ہسٹوگرام کی تشکیل کیجیے۔

جدول 5.7: تعدادی تقسیم کاری

تعداد (Frequency)	جماعت (Class)
1	55-59
3	50-54
9	45-49
11	40-44
8	35-39
5	30-34
2	25-29
1	20-24

حل: ہسٹوگرام بنانے کے لیے ہم X-axis پر جماعتی وقفوں کے حدود نشان زد کرتے ہیں۔ یہاں پر ہم درست جماعتی حد کو نقاط کے طور پر شامل کرتے ہیں جیسے کہ 19.5, 24.5, 29.5, , 54.5, 59.5۔ y-axis پر تعداد 0 تا 12 نشان زد کریں گے۔ x-axis پر 1cm کی دوری 5 کا اسکور ظاہر کرتی ہے اور Y-axis پر 2cm کے تعداد کو ظاہر کرتا ہے۔ ہسٹوگرام کی شکل 5.1 میں دیکھائی گئی ہے۔



شکل 5.1: حاصل کردہ نشانات کی تقسیم کاری


(b) بارخاکہ یا بارگراف (Bar diagram or Bar graph)

اگر متغیر مفصل (Discrete Variable) ہے تو اس کا ہسٹوگراف تشکیل نہیں دیا جاسکتا کیونکہ جماعتوں کا قدر کی اصطلاح میں موازنہ نہیں کیا جاسکتا ہے۔ تاہم ایک سادہ تریسی پیش کش جو کافی حد تک ہسٹوگرام سے ملتی جلتی ہے بنائی جاسکتی ہے۔ اسے بارخاکہ گراف کہتے ہیں۔ مندرجہ ذیل جدول 5.8 میں کل 1000 استادوں کی تعداد کو مضمون کے مطابق تقسیم کیا گیا ہے۔

جدول 5.8: کسی اسکول میں مضمون کے مطابق استادوں کی تعداد

مضامین	استادوں کی تعداد
آرٹس اور کرافٹ	20
سائنس	80
سماجی سائنس	300
ہندی	400
ریاضی	150
انگلش	50
جملہ	1000

حل: ایک مفصل متغیر کے لیے افقی محور (Horizontal Axis) پر پیمائش غیر اہم ہے۔ اسی طرح یہ بھی ضروری نہیں کہ جماعتیں ایک دوسرے سے مربوط و متعلق ہوں۔ اس لیے بار کو مساوی، دوری پر افقی محور پر مساوی چوڑائی کا حامل رکھا جاتا ہے۔ تاہم اونچائی ان کے متعلقہ تعداد کے تناسب میں ہوتی ہے۔ بارگراف کو مفصل ڈاٹا کی تصویری پیش کش کے لیے اکثر استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر دو متغیرات کو ایک ہی وقت میں استعمال کیا جائے اس صورت میں بھی بارگراف کافی موثر ثابت ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر جملہ اسکولوں کی تعداد کے ساتھ ساتھ لڑکوں کے اسکول اور لڑکیوں کے اسکول اور مخلوط تعلیم کے اسکول بھی دکھانے مطلوب ہوں تو ایک ہی گراف پیپر پر مختلف رنگوں کا استعمال کر کے انہیں دکھایا جاسکتا ہے۔ جس میں ہر رنگ کے ذریعے ایک خاص زمرے کا اظہار ہوگا ہر انتظامیہ کے لیے 4 مختلف رنگوں کے بار ہوں گے جو مختلف زمروں کو ظاہر کریں گے۔ شکل 5.2 میں جدول 5.8 کی تقسیم کاری کا بار ڈاٹا گرام دکھایا گیا ہے:



شکل 5.2: کسی اسکول میں مضمون کے مطابق استادوں کی تعداد

(c) پائی ڈائیگرام (Pie-Digram)

پائی ڈائیگرام (Pie-Digram) کو Circle Digram بھی کہتے ہیں اس کا استعمال عام طور پر کسی گروہ کی ساخت (Structure) یا (Composition) کو واضح کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ Circle کے مرکز (Centre) میں 360 کے Angle کو گروہ کے مختلف طلباء کی تعداد کے مطابق تقسیم کر لیا جاتا ہے۔ دائرے کا ہر حصہ اُس متعلق گروہ میں طلباء کی تعداد کو بتاتا ہے پائی ڈائیگرام (Pie-Digram) بنانے کے لیے پہلے مختلف گروہوں کے لیے Angle کی قدر (Value) معلوم کر لیتے ہیں۔


مثال: اگر کسی اسکول میں پڑھنے والے کل 600 طلباء میں سے 200 طلباء اعلیٰ سماجی و معاشی سطح کے، 250 طلباء اوسط سماجی و معاشی سطح کے اور 150 طلباء ادنیٰ سماجی و معاشی سطح کے ہوں تو اُس اسکول کے طلباء کی سماجی اور معاشی ساخت کو دائرے کی تصویر کے ذریعے پیش کیجیے۔

حل: مندرجہ ذیل جدول میں طلباء کی سماجی و معاشی سطح کی تعداد کے اعتبار سے ہر ایک کے حصے کا زاویہ پیش کیا گیا ہے:

جدول 5.9: مختلف سماجی معاشی سطح کے طلباء کی تعداد اور ان کا زاویہ

طلباء کی سماجی و معاشی سطح (SES)	طلباء کی تعداد (n)	Angle = $360 * n / N$
اعلیٰ سماجی و معاشی سطح	200	120
اوسط سماجی و معاشی سطح	250	150
ادنیٰ سماجی و معاشی سطح	150	90
جملہ طلباء	(N)600	360

اب دائرہ کے مرکز سے ایک ریڈیوس خط پر ان زاویوں کے اعتبار سے خط کی تشکیل دیجیے تو آپ کو ان پائی ڈائیگرام حاصل ہوگا:



شکل 5.3: مختلف سماجی معاشی سطح کے طلباء کی تعداد

(d) تعدادی کثیرضلعی (Frequency Polygon)


ایک تعدادی کثیرضلعی بنانے کے لیے ہسٹوگرام کی طرح متغیر کی تعداد (Number of Variables) کو افقی محور پر اور تعدات کو گراف کے عمودی محور (Vertical Axis) پر لیا جاتا ہے۔ تعدادی کثیرضلعی کے لیے افقی محور پر وقفوں کی حدیں دکھانے کے بجائے جماعتی وقفوں کے مرکزی نقطے ظاہر کرنے پڑتے ہیں۔ اس صورت میں وقفوں کے وسطی نقطوں کو اقل ترین وقفہ سے ٹھیک پہلے اور اعظم ترین وقفہ سے ٹھیک بعد دکھانا پڑتا ہے اب وسطی نقطوں کو یکے بعد دیگر لیتے ہوئے ان کے اوپر متعلقہ وقفوں کے تعدات کے نقاط پلاٹ کیے جاتے ہیں۔ دو اضافی وسطی نقاط کی صورت میں جہاں تعدد صفر ہو نقاط کو X-axis پر ہی پلاٹ کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح پلاٹ کیے گئے نقاط کو خط مستقیم کے ذریعے جوڑا جاتا ہے۔

مثال: جدول 5.10 میں دیئے گئے ریاضی میں حاصل کردہ کی تعددی تقسیم پر غور کریں اور اس کا کثیرضلعی بنا سیں۔

حل: جماعتی وقفوں کے وسطی نقاط با ترتیب 22, 27, 32, 37, 47, 52, 57 پر نشان زد کیجیے۔ پلاٹ کیے گئے نقاط کے اوپر اونچا بالترتیب پر نقاط 62, 57, 52, 47, 37, 32, 27, 22.....62 کو نشان زد کیجیے۔ پلاٹ کیے گئے نقاط کے اوپر اونچا بالترتیب پر نقاط 0 اور 1, 3, 9, 11, 8, 5, 2, 1, 0 لیتے ہوئے نقاط لگائیے۔ ان نقاط کو ترتیب میں ملائیے مطلوبہ تعددی کثیرضلعی شکل 5.4 جیسی ہوگی

جدول 5.10: تعدادی تقسیم کاری

تعداد (Frequency)	جماعت (Class)
1	55-59
3	50-54
9	45-49
11	40-44
8	35-39
5	30-34
2	25-29
1	20-24



شکل 5.4: ریاضی میں حاصل کردہ نشانات کی تعدادی کثیر ضلعی

تعدادی کثیر ضلعی کا بنیادی مقصد تقسیم کی شکل کا اظہار ہے۔ جب دو یا زائد تعدادی تقسیم کاری کا موازنہ کرنا ہو تو یکساں محوروں پر متعلقہ تعدادی کثیر ضلعی بنائے جاتے ہیں۔ شکل میں کسی بھی قسم کا فرق دیکھا جاسکتا ہے۔ تعدادی کثیر ضلعی ہسٹوگرام سے بہتر افادیت کا حامل ہے۔

(e) مجموعی تعدادی منحنی اور او جائیو (Cumulative Frequency Curve & Ogive)

مجموعی تعدادی منحنی یا او جائیو کو پلاٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے تمام وقفوں کے مقابل تعداد کے سامنے مجموعی تعداد اور ان کی فیصد لکھتے ہیں۔ جماعتی وقفوں کے مجموعی تعداد کو حاصل کرنے کے لیے ہم سابقہ وقفہ کے مجموعی تعداد کو اس وقفہ کے تعداد میں جمع کرتے ہیں۔ اسی طرح ہر ایک تعداد کے لیے ان کا فیصد بھی نکالتے ہیں اور اس کو ایک کالم میں قلم بند کرتے ہیں۔ تعدادی کثیر ضلعی اور او جائیو بنانے میں فرق یہ ہے کہ تعدادی کثیر ضلعی کے لیے افقی محور پر جماعتی وقفوں کے وسطی نقاط لیے جاتے ہیں جبکہ او جائیو میں افقی محور پر جماعتی وقفوں کی بالائی حد لی جاتی ہے۔ مزید برآں عمودی محور پر او جائیو کی صورت میں بجائے محض مجموعی تعداد کے مجموعی فیصد لیا جاتا ہے۔

مثال: جدول 5.8 میں تعدادی تقسیم کاری دی گئی ہے۔ اس تقسیم کاری کے لیے مجموعی تعدادی منحنی اور او جائیو بنائیے۔

جدول 5.11 A: تعدادی تقسیم کاری


نشانات	90-99	80-89	70-79	60-69	50-59	40-49	30-39
تعداد	11	18	20	25	21	18	7

حل: - یہاں مجموعی تعداد کا مطلب ہے کہ 39.5 تک 7 کیس (Cases) ہیں۔ 49.5 تک 25 کیس (Cases) اور 59.5 تک 46 کیس (Cases) ہیں وغیرہ۔ وغیرہ۔

جدول B 5.11: تعدادی تقسیم کاری

فیصد (%Cf)	مجموعی تعداد (Cf)	تعداد (f)	نشانات
$5.83=7/120 \times 100$	7	7	30-39
$20.83=25/120 \times 100$	25	18	40-49
$38.33=46/120 \times 100$	46	21	50-59
$59.17=71/120 \times 100$	71	25	60-69
$75.83=91/120 \times 100$	91	20	70-79
$90.83=109/120 \times 100$	109	18	80-89
100	120	11	90-99
		N= 120	

جدول B 5.11 کے ڈاٹا کی مجموعی تعداد منحنی اور مجموعی فیصد منحنی (اوجائیو) شکل 5.5 میں دکھائی گئی ہے:



شکل 5.5: مجموعی تعداد منحنی اور اوجائیو

5.3.4 مرکزی رجحان کی پیمائش (Measures of Central Tendency)

ڈاٹا کو تعدادی تقسیم کاری میں پیش کرنے پر اس کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے لیکن عام فرد کے لیے صرف دیکھنے سے ہی اس کے بارے میں کوئی نتائج نکالنا مشکل ہوتا ہے اگر ڈاٹا کو اور بھی زیادہ مختصر کر کے ایک ہی اسکور کے ذریعے پیش کیا جائے تو اس ایک اسکور کی مدد سے پورے

گروہ کی قابلیت کو سمجھنا زیادہ آسان ہو جائے گا۔ مختصر کرنے کے اس عمل میں ایک ایسا اسکور حاصل کیا جاتا ہے جو پورے گروپ یا گروہ کے اسکور کی نمائندگی کر سکے۔ ایسے اسکور کو جو پورے گروپ کی نمائندگی کرتا ہے۔ مرکزی رجحان کی قدر کہا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ مرکزی رجحان کی قدر وہی اسکور ہوگا جس کے ارد گرد زیادہ تر اسکور ہوں گے۔ کچھ اسکور مرکزی رجحان کی قدر سے چھوٹے کچھ اسکور مرکزی رجحان سے بڑے ہو سکتے ہیں۔ مرکزی رجحان قدر کے دو استعمال ہے۔

- (1) یہ گروپ کے درجہ اوسط کو بتاتا ہے جس سے اُس گروپ کے گروہ قابلیت کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہے۔
- (2) مرکزی رجحان کی قدر کا استعمال دو یا دو سے زائد گروہ کا آپسی موازنہ کرنے میں کیا جاتا ہے۔ مرکزی رجحان کے پیمائش کی کئی طریقہ ہے۔ عمومی طور پر تین طرح کے مرکزی رجحان کے قدروں کا استعمال کیا جاتا ہے۔

(1) اوسط (Mean)

(2) وسطانیہ (Median)

(3) بہتانیہ (Mode)

5.3.4.1 مرکزی رجحان کی پیمائش۔ اوسط (Average or Mean)

مرکزی رجحانات کی پیمائش کی پہلی قسم اوسط ہے۔ اسے حسابی اوسط (Arithmetic Mean) کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اوسط وہ اسکور ہے جو پیمائشوں کی کل جمع کو ان کی تعداد سے تقسیم کرنے پر حاصل ہوتا ہے۔ اس کو M یا X سے ظاہر کیا جاتا ہے:

ان کی کل تعداد / پیمائشوں کی کل جمع = اوسط

☆ غیر گروہ بند ڈاٹا (Ungrouped data) کے لیے اوسط کی تحسیب: جب خام ڈاٹا (Raw Data) دیا ہوا ہو تب اوسط کو محسوب کرنے کے لیے تمام قدروں کی حاصل جمع کو ان کے کل تعداد سے تقسیم کیا جاتا ہے۔

$$M = \frac{\sum X}{N}$$

جہاں $M =$ اوسط؛ $\sum X =$ تمام قدروں کی جمع؛ اور $\sum f = N =$ تمام صورتوں کی تعداد

(مثال 1) درج ذیل اسکور کے لیے اوسط کو محسوب کیجیے:

جدول (A) 5.12: چھ طلباء کا سائنس میں حاصل کردہ نشانات

نشانات (Scores)	مضمون (Subject)
34,35,40,38,42,45	Science

حل:

$$M = \frac{\sum X}{N} = (34+35+40+38+42+45)/6 = 234 / 6 = 39$$

گروہ بند ڈاٹا (Grouped data) کے لیے اوسط کی تحسیب: گروہ بند ڈاٹا کے لیے وہ صورتیں ہو سکتی ہیں:

(A) اوسط کی تحسیب جب کہ مخصوص اسکور اور تعدادیے گئے ہوں۔ اس میں درج ذیل ضابطہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔

$$M = \frac{\sum fX}{N}$$

جہاں M = اوسط؛ X = اسکور؛ اور $\sum f = N$ = تمام صورتوں کی تعداد

مثال (2) درج ذیل ڈاٹا کے لیے اوسط کو محسوب کیجیے:

جدول (B) 5.12: تیس طلباء کا سائنس میں حاصل کردہ نشانات

اسکور (X)	18	20	24	35	42	48	50
تعداد (f)	2	4	3	8	6	4	3

حل: ہم درج ذیل ضابطہ کا استعمال کریں گے۔

$$M = \frac{\sum fX}{N}$$

جدول 5.13: ضابطہ کے مطابق تیس طلباء کا سائنس میں حاصل کردہ نشانات

X	f	fX
18	2	36
20	4	80
24	3	72
35	8	280
42	6	252
48	4	192
50	3	150
	$N=30$	$\sum fX = 862$

$$M = \frac{\sum fX}{N} = \frac{862}{30} = 28.73$$

(B) جب کہ ڈاٹا گروہ بند ہو اور ہر وقفہ جماعت کے لیے تعداد دی گئی ہو۔ اس صورت میں ہم طویل طریقہ یا مفروضہ اوسط کو استعمال کرتے ہوئے مختصر طریقہ سے محسوب کر سکتے ہیں۔ یہاں ایک مفروضہ بنایا گیا ہے کہ تمام تعداد وقفہ جماعت کے وسطی نقطہ پر مرکوز ہوتے ہیں۔ اس لیے اسکور کے لیے وقفہ جماعت کا وسطی نقطہ استعمال کیا جاتا ہے۔

طویل طریقہ: اس میں درج ذیل ضابطہ کی مدد سے اوسط کو محسوب کیا جاتا ہے۔

$$M = \frac{\sum fm}{N}$$

جہاں M = اوسط؛ m = وقفہ جماعت کا وسطی نقطہ؛ f = تعداد؛ N = کل صورتوں کا کل تعداد

مثال (3) درج ذیل تعدادی تقسیم کاری کے لیے اوسط کو محسوب کیجیے۔

جدول 5.14: پچاس طلباء کا سائنس میں حاصل کردہ نشانات

40-44	35-39	30-34	25-29	20-24	15-19	10-14	وقفہ جماعت (CI)
3	5	10	14	8	6	4	تعداد (f)

حل: اس میں درجہ ذیل ضابطہ کی مدد سے اوسط کو محسوب کریں گے۔

$$M = \frac{\sum fm}{N}$$

جدول 5.15: ضابطہ کے مطابق پچاس طلباء کا سائنس میں حاصل کردہ نشانات

جماعتی وقفہ (CI)	تعداد (f)	وسطی نقطہ	fm
40-44	3	42	126
35-39	5	37	185
30-34	10	32	320
25-29	14	27	378
20-24	8	22	176
15-19	6	17	102
10-14	4	12	48
	N=50		$\sum fm = 1335$

$$M = \frac{\sum fm}{N} = 1335/50 = 26.7$$

مختصر طریقہ (مفروضہ اوسط طریقہ کے ذریعہ اوسط کی تحسیب): مفروضہ اوسط کے اس طریقہ میں سب سے پہلے وقفہ جماعت کے وسطی نقاط میں سے تقسیم کاری کے تقریباً درمیان میں ایک وسطی نقطہ کو منتخب کر لیتے ہیں جس کو مفروضہ اوسط (Assumed Mean) کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہر ایک اسکور یعنی وسطی نقطہ کا اس منتخب مفروضہ اوسط سے اکائی انحراف تحسیب کر کے اس کو تعداد سے ضرب کرتے ہیں۔ اس طریقہ کو مرحلہ انحرافی طریقہ (Step Deviation Method) بھی کہتے ہیں۔ اس طریقہ سے اوسط کی تحسیب کے لیے درجہ ذیل ضابطہ کا استعمال کیا جاتا ہے:

$$M = A + \frac{\sum fd}{N} * i$$

جہاں M = اوسط؛ A = مفروضہ اوسط؛ f = تعداد؛ d = مفروضہ اوسط سے اکائی انحراف [d = (x - A)/i]؛ i = وقفہ جماعت کا سائز

درج بالا مراحل کا خلاصہ اس طرح ہے:

☆ ڈاٹا کی ضابطہ کی شکل میں جدول سازی کیجیے۔ یعنی وقفہ جماعت (CI)، وسطی اسکور (x)، تعداد (f)، اکائی انحراف (d) اور (fd) کے لیے کالم بنائیے۔

☆ تقسیم کاری کے وسط میں موجود وقفہ جماعت کا انتخاب کیجیے۔ اگر دو وقفہ جماعت سے سابقہ ہو تو اعظم تعداد والے وقفہ جماعت کا انتخاب کیجیے۔

☆ انحراف کے کالم کو پر کیجیے۔ (A) پر مشتمل وقفہ جماعت کے مقابل صفر اور اوپری حد اسکور والے وقفہ کے مقابل +1، +2، +3 وغیرہ اور نچلی حد اسکور والے جماعت کے مقابل -1، -2، -3 وغیرہ درج کیجیے۔

☆ تعداد اور ان کے متعلقہ انحراف کا حاصل ضرب معلوم کیجیے اور fd دوا لے کالم میں قیمتوں کو درج کیجیے۔

☆ کالم fd کی کل جمع Σfd معلوم کیجیے اور دیے گئے ضابطہ کا استعمال کر کے اوسط کی تحسیب کیجیے۔

مثال (4) درج ذیل تعدادی تقسیم کاری کے لیے مفروضہ اوسط طریقہ سے اوسط کو محسوب کیجیے۔

جدول 5.16: پچاس طلباء کا سائنس میں حاصل کردہ نشانات

وقفہ جماعت (CI)	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
تعداد (f)	4	6	8	14	10	5	3

حل: اس میں درج ذیل ضابطہ کی مدد سے اوسط کو محسوب کریں گے۔

$$M = A + \frac{\Sigma fd}{N} * i$$

جہاں M = اوسط؛ A = مفروضہ اوسط؛ f = تعداد؛ d = مفروضہ اوسط سے اکائی انحراف $[d = (m - A) / i]$ ؛ i = وقفہ جماعت کا سائز

جدول 5.17: ضابطہ کے مطابق پچاس طلباء کا سائنس میں حاصل کردہ نشانات

fd	$d = (m - A) / i$	f	m	CI
+9	+3	3	42	40-44
+10	+2	5	37	35-39
+10	+1	10	32	30-34
0	0	14	A=27	25-29
-8	-1	8	22	20-24
-12	-2	6	17	15-19
-12	-3	4	12	10-14
$\Sigma fd = -3$		N=50		

$$50 = N, 5 = i, -3 = \Sigma fd, 27 = A$$

$$M = 27 + \frac{-3}{50} * 5 = 27 - 0.3 = 26.7$$

نوٹ: درحقیقت کچھ دیر بعد انحرافات کی تحسیب کرنا ایک میکانیکی طریقہ بن جاتا ہے یعنی پہلے مفروضہ اوسط کے کالم کے بالمقابل صفر (0) درج کیجیے اور اوپری حد اسکور والے وقفہ جماعت کی طرف +1، +2، +3 درج کیجیے۔ اور نچلی حد اسکور والے وقفہ جماعت کی طرف -1، -2، -3 درج کیجیے۔ یہ آپ کے وقت کی بچت میں بھی مددگار ہو سکتا ہے۔

اجتماعی اوسط (Weighted Average)

آپ کسی اسکول کی اس صورت حال سے واقف ہوں گے جس میں 3 یا 4 غیر مساوی سائز کے سیکشن ہوں اور ہر ایک سیکشن کے طلباء کی اوسط کارکردگی معلوم ہو اور درج بالا طریقوں کے ذریعہ کے اگر ہم اسکول کے اوسط کو محسوب کرنا چاہیں تو اجتماعی اوسط کی تحسیب کے لیے ایک ضابطہ کی ضرورت محسوس ہوگی۔ اور اسی طرح اگر ہمارے پاس مختلف اسکولوں کے اوسط موجود ہوں اور ہمیں ضلع کی سطح پر اوسط محسوب کرنا ہو تب بھی اجتماعی اوسط کی تحسیب کرنا ہوگا۔ اس کے لیے مندرجہ ذیل ضابطہ کا استعمال کرنا چاہیے:

$$M_w = \frac{\sum NM}{\sum N}$$

جہاں M_w = اجتماعی اوسط؛ M = اوسط؛ N = تعداد

مثال (5) درج ذیل جدول میں تین الگ الگ نمونوں (Samples) کا اوسط اور ان کی متعلقہ تعداد دی گئی ہے۔ ان کا اجتماعی اوسط محسوب کیجیے۔

جدول 5.18: تین نمونوں (Samples) کا اوسط اور ان کی متعلقہ تعداد

14.7	16.5	15.4	نمونہ کا اوسط
50	40	60	نمونہ کا سائز

$$\begin{aligned} M_w &= \frac{\sum NM}{\sum N} = M_w = \frac{N_1 M_1 + N_2 M_2 + N_3 M_3}{N_1 + N_2 + N_3} \\ &= \frac{60 * 15.4 + 40 * 16.5 + 50 * 14.7}{60 + 40 + 50} = 15.46 \end{aligned}$$

تعلیمی صورت حالات اور اوسط کا استعمال: اوسط کا استعمال اس وقت کیا جاتا ہے جب کہ:

- (1) اسکور ایک مرکزی نقطہ کے اطراف مشابہ طور پر منقسم ہوں۔ یعنی تقسیم کاری واضح طور پر کج نہ ہو۔
- (2) ہم کسی نمونہ کی مرکزی شکل معلوم کرنا چاہتے ہوں۔
- (3) اعظم استحکام کے ساتھ مرکزی رجحان معلوم کرنا ہو۔
- (4) دیگر شماریات (معیاری انحراف، ارتباط کی شرح وغیرہ) معلوم کرنے میں۔
- (5) گروپ کی کارکردگی کا موازنہ و درست اور دقیق پیمائش کے ساتھ کرنا ہو۔

اوسط کی خامیاں: کبھی کبھی کسی تقسیم کاری کا اوسط بہت غلط رہنمائی کرتا ہے خصوصاً طور پر اس وقت جبکہ کچھ مشاہدات دیگر مشاہدات کے مقابلے میں بہت زیادہ اعظم یا اقل ہوں۔ اگر آپ کلاس کے اوسط سائز کا مطالعہ کرنا چاہتے ہوں جبکہ 50-100 طلباء پر مشتمل 5 کلاس ہوں۔ 50 تا 100 طلباء پر مشتمل 10 کلاس اور 35 ایسی کلاس جس میں فی کلاس 30 تا 50 طلباء ہوں تب اوسط 55.5 کوئی خاص کیفیت کو ظاہر نہیں کرتا یہی

نہیں بلکہ اگر ایک کلاس میں 5 طلبا ہوں اور 12، 15، 20، 25 اور 100 اسکور حاصل کرتے ہیں تب اوسط 34.4 غلط رہنمائی کرتا ہے۔ اس طرح کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں جس میں اوسط کوئی معنی خیز معلومات فراہم نہیں کر سکتا۔

5.3.4.2 مرکزی رجحان کی پیمائش۔ وسطانیہ (Median)

مرکزی رجحان کی قدر کا دوسرا اقسام وسطانیہ ہے۔ وسطانیہ گروہ کو دو برابر حصوں میں اس طرح سے بانٹتا ہے ایک حصہ کے سارے اسکور اُسے چھوٹے اور دوسرے حصے کے سارے اسکور اُس سے بڑے ہوتے ہیں۔ اس لیے وسطانیہ وہ اسکور ہے جس سے کم و زیادہ اسکور پانے والے تعداد برابر ہوتی ہے۔ اگر سبھی اسکور کو اعظم ترین کی ترتیب میں جسے صعودی ترتیب (Ascending Order) اور نزولی ترتیب (Decending Order) رکھا جائے تو اُس ترتیب کا درمیانی اسکور اُس دو ایسے حصوں میں بانٹنے کا آدھے اسکور درمیانی اسکور درمیانی سے بڑے ہوں گے۔ جب ڈاٹا کو مرتبہ کے مطابق ترتیب دیا جائے تب تقسیم کاری کو دو مساوی حصوں میں تقسیم کرنے والے نقطہ کے ذریعہ مرکزی رجحان کی پیمائش کو حاصل کیا جاسکتا ہے اس لیے وسطانیہ پیمائش پر وہ نقطہ ہے جس کے اوپر اور نیچے ٹھیک 50 فیصد صورتیں پائی جاتی ہیں۔ اس لیے وسطانیہ مہیا کردہ تراشیدہ (ناکمل) ڈاٹا کے لیے بھی حاصل کیا جاسکتا ہے ہم صورتوں کی کل تعداد اور پیمانے پر ان کے ممکنہ مقامات جانتے ہیں۔ یہ بات قابل توجہ ہے کہ وسطانیہ کی تعریف بطور ایک نقطہ کے کی جاتی ہے نہ کہ اسکور یا کوئی مخصوص پیمائش۔ وسطانیہ کو ہم Mdn ظاہر کیا جاتا ہے۔

☆ غیر گروہ بند ڈاٹا (Ungrouped data) میں وسطانیہ: اس شکل میں وسطانیہ کو مندرجہ ذیل فارمولے کا استعمال کر کے محسوب کیا جاتا ہے:

$$\text{Mdn} = \left(\frac{N+1}{2}\right)^{\text{th}} \text{item}$$

جہاں N اسکور کی تعداد ہے۔

(مثال 1) مندرجہ ذیل اسکور X اور Y کے لیے وسطانیہ کو محسوب کیجیے:

جدول 5.19: وسطانیہ کو محسوب کرنے کے لیے اسکور X اور Y

اسکور (X) (N=9)	60,48,50,31,75,72,80,87,65
اسکور (Y) (N=8)	64,78,81,70,94,89,62,63

حل:

اسکور (X) کے لیے وسطانیہ کی تحسیب:

ان کا وسطانیہ معلوم کرنے کے لیے سب سے پہلے صعودی ترتیب میں ان اسکور کو اس طرح سے لکھا جاسکتا ہے:-

31,48,50,60,65,72,75,80,87

یہاں N=9، اس لیے

$$\text{Mdn} = \left(\frac{N+1}{2}\right)^{\text{th}} \text{item} = \left(\frac{9+1}{2}\right)^{\text{th}} \text{item} = 5^{\text{th}} \text{item} = 65$$

اسکور (Y) کے لیے وسطانیہ کی تحسیب: صعودی ترتیب میں اس اسکور کو اس طرح سے لکھا جاسکتا ہے:-

62,63,64,70,78,81,89,94

یہاں N=8، اس لیے

$$\text{Mdn} = \left(\frac{N+1}{2}\right)^{\text{th}} \text{item} = \left(\frac{8+1}{2}\right)^{\text{th}} \text{item} = 4.5^{\text{th}} \text{item} = \frac{70+78}{2} = 74$$

اسکور کی تعداد جفت ہونے کی وجہ سے وسط میں دو اسکور حاصل ہوئے۔ اس لیے وسطیہ کے لیے ان دو اسکورس کا اوسط حاصل کیا جاتا ہے۔
☆ گروہ بند ڈاٹا (Grouped data) میں وسطیہ کی تحسب: جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ وسطیہ پیمائشی پیمانہ پر وہ نقطہ ہے جس کے نیچے ٹھیک 50 فیصد صورتیں ہوں اور واضح طور پر ٹھیک 50 فیصد صورتیں اس کے اوپر ہوتی ہیں۔ وسطیہ کو محسوب کرنے کے لیے گروہ بند ڈاٹا کی صورت میں یہ مفروضہ ہے کہ وقفہ جماعت میں تعدد جفت کے طور پر منقسم ہوتا ہے۔ اس کے لیے مندرجہ ذیل ضابطہ کا استعمال کیا جاتا ہے:

$$\text{Mdn} = L + \frac{N/2 - C_f}{f} * i$$

جہاں Mdn = وسطیہ؛ L = وسطیہ جماعت کی درست نچلی سطح؛ C_f = وسطیہ جماعت سے پہلے والی جماعت کی مجموعی تعداد؛ f = وسطیہ جماعت کی تعداد؛ N = کل تعداد؛ i = وقفہ جماعت کا سائز؛ یہاں وسطیہ جماعت = وہ جماعت جس میں $\left(\frac{N}{2}\right)^{\text{th}}$ item موجود ہے (مثال 2) درج ذیل تعدادی تقسیم کاری کے لیے وسطیہ کو محسوب کیجیے۔

جدول 5.20: وسطیہ کی تحسب کے لیے تعدادی تقسیم کاری

وقفہ جماعت	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90-99
تعداد	2	8	12	25	23	18	8	4

حل: اس کے لیے ہم اس ضابطہ کا استعمال کریں گے:-

$$\text{Mdn} = L + \frac{N/2 - C_f}{f} * i$$

جہاں Mdn = وسطیہ؛ L = وسطیہ جماعت کی درست نچلی سطح؛ C_f = وسطیہ جماعت سے پہلے والی جماعت کی مجموعی تعداد؛ f = وسطیہ جماعت کی تعداد؛ N = کل تعداد؛ i = وقفہ جماعت کا سائز؛ یہاں وسطیہ جماعت = وہ جماعت جس میں $\left(\frac{N}{2}\right)^{\text{th}}$ item موجود ہے۔

جدول 5.21: وسطیہ کو معلوم کرنے کے لیے اس کے ضابطہ کے مطابق جدول سازی

جماعتی وقفہ (CI)	f	C_f
90-99	4	100
80-89	8	96
70-79	18	88
60-69	23 (f)	70 (جماعت وسطیہ)
50-59	25	47 C_f
40-49	12	22

10	8	30-39
2	2	20-29
	N=100	i=10

یعنی $N/2$ th 50th قدر پر مشتمل جماعت وسطانیہ 60-69 ہے (مجموعی تعدادی کالم دیکھیے)۔

اب، $L=59.5$ ؛ $C_f=47$ ؛ $f=23$ ؛ $i=10$ ؛ اس لیے

$$Mdn = 59.5 + \{(50-47)/23\} \times 10 = 60.80$$

تعلیمی صورت حال اور وسطانیہ کا استعمال: درج ذیل حالات میں وسطانیہ کا استعمال کیا جاسکتا ہے۔

- ☆ جب نامکمل تقسیم کاری دی گئی ہو۔
- ☆ جب کہ تقسیم کاری کو دو حصوں میں تقسیم کرنے والے نقطہ کی ضرورت ہو۔
- ☆ جب ہ تقسیم کاری واضح طور پر کج ہو۔ ایک سے زائد انتہائی صورتیں تقسیم کاری کے ایک ہی جانب ہو۔
- ☆ جبکہ ہم صرف تقسیم کاری کے اوپری نصف اور نچلے نصف میں صورتوں کے مقام کو معلوم کرنا چاہتے ہوں نہ کہ وہ مرکزی نقطہ سے کتنی دور ہیں۔
- ☆ وسطانیہ کی محدودیت: وسطانیہ تمام مشاہدات کے تابع نہیں ہوتا اور وہ ان کی عددی قدروں کو نظر انداز کرتا ہے۔ یہ تقسیم کاری کی مرکزی شکل کے طور پر استعمال نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کمتر شماریات تجزیہ کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔

5.3.4.3 مرکزی رجحان کی پیمائش۔ بہتاتیہ (Mode):

بہتاتیہ وہ اسکور ہے جو گروہ میں سب سے زائد لوگوں کو حاصل ہوتا ہے یا وہ اسکور جسے سب سے زیادہ طلباء حاصل کرتے ہیں۔ اُس حاصل شدہ اسکور کو گروپ کا بہتاتیہ کہتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں بہتاتیہ وہ اسکور ہے جو سب سے زیادہ بار آتا ہے یعنی جس کی تعداد (Frequency) سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ بہتاتیہ کو M_o or Z سے ظاہر کرتے ہیں۔ کبھی کبھی دو یا زائد اسکورس کی Frequency دیگر اسکور سے زیادہ لیکن برابر ہوتی ہے تب ان سبھی اسکورس کو بہتاتیہ کہتے ہیں۔ جب ڈاٹا کے لیے دو بہتاتیہ ہو تو ڈاٹا کو Bimodal Data کہتے ہیں۔ دو سے زیادہ بہتاتیہ ہونے پر ڈاٹا کو Multi-Modal Data کہا جاتا ہے۔ مندرجہ ذیل جدول 5.22 میں اس کو پیش کیا گیا ہے:

جدول 5.22: مختلف بہتاتیہ والے ڈاٹا کی مثالیں

وضاحت	Modal Name	No. of Modal Value	Modal Value	Example
صرف ایک بہتاتیہ ہے	Uni Modal	1	7	4,5,5,6,6,7,7,7,8,8,9,10

صرف دو بہتاتیہ ہے	Bi Modal	2	7 & 10	4,4,5,7,7,7,8,9,10,10,10,13
دو سے زائد بہتاتیہ ہے	Multi Modal	2 سے زیادہ	7, 9 & 10	5,6,6,7,7,8,9,9,10,10,11,13

☆ غیر گروہ بند ڈاٹا (Ungrouped data) میں بہتاتیہ: ایک سادہ غیر گروہ بند پیمائشوں کے سیٹ میں بہتاتیہ وہ تنہا پیمائش یا اسکور ہے جس کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔

مثال (1): اگر دس طلباء کے حاصل شدہ اسکور مندرجہ ذیل ہے تو اس کا بہتاتیہ پتا کیجیے:

جدول (A) 5.23: دس طلباء کے حاصل شدہ اسکور

مضمون	حاصل شدہ اسکور
سماجی علوم	15,16,17,22,28,25,22,23,22

حل: جدول کا مشاہدہ کرنے پر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سب سے زیادہ تعداد والا اسکور 22 ہے، اسے 3 طلباء نے حاصل کیا ہے۔ اس لیے یہ دیئے ہوئے غیر گروہ بند ڈاٹا کے لیے بہتاتیہ ہے۔

☆ گروہ بند ڈاٹا (Grouped data) کے لیے بہتاتیہ کی تحسیب: جب ڈاٹا کو وقفہ جماعت اور تعداد کی شکل میں گروہ بند کیا جاتا ہے تب وہ نقطہ جس پر تعداد سب سے زیادہ مرتکز ہوں یا تعدادی تقسیم کاری میں چوٹی کو بہتاتیہ کہتے ہیں۔ ایسی صورت میں بہتاتیہ کی پہچان صرف مشاہدہ سے بھی کی جاسکتی ہے۔ سب سے زیادہ تعداد رکھنے والے اسکور یا وقفہ جماعت کے وسطی نقطہ کو بہتاتیہ کہتے ہیں۔ اس تخمینہ کی وجہ سے کبھی کبھی ہم اسے خام بہتاتیہ بھی کہتے ہیں۔ لیکن ایسی شکل میں جب کسی تعدادی تقسیم کاری میں سب سے زیادہ یا قریب زیادہ تعداد رکھنے والے اسکور یا وقفہ جماعت ایک سے زائد موجود ہو تو اس تعدادی تقسیم کاری میں بہتاتیہ کی پہچان دوسرے طریقوں سے کی جاتی ہے جیسے کہ درجہ بندی و تجزیاتی طریقہ کار (Grouping & Analysis Method) یا مندرجہ ذیل ضابطہ کا استعمال:

$$Mo = L + \frac{fm_2}{fm_1 + fm_2} * i$$

جہاں Mo = بہتاتیہ؛ L = بہتاتیہ جماعت کی درست چلی سٹخ؛ fm_1 = بہتاتیہ جماعت سے پہلے والی جماعت کی تعداد؛ fm_2 = بہتاتیہ جماعت سے بعد والے جماعت کی تعداد؛ i = وقفہ جماعت کا سائز؛ یہاں بہتاتیہ جماعت سے مراد وہ جماعت ہے جس کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔

مثال (۲) درجہ ذیل تعدادی تقسیم کاری کے لیے بہتاتیہ معلوم کیجیے۔

جدول (B) 5.23: بہتاتیہ کے لیے تعدادی تقسیم کاری

40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	وقفہ جماعت
3	6	7	5	2	تعداد

حل:

(1) اس جدول کے مشاہدہ سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ دیئے ہوئے تقسیم کاری میں وقفہ جماعت 54-50 میں اعلیٰ تعداد 7 ہے۔ اس لیے سطحی نقطہ 52 اس تقسیم کاری کا خام بہتاتیہ ہے۔

(2) اب ہم مندرجہ ذیل ضابطہ سے اس تقسیم کاری میں بہتاتیہ کی پہچان کریں گے:

$$Mo = L + \frac{fm_2}{fm_1 + fm_2} * i$$

جہاں Mo = بہتاتیہ؛ L = بہتاتیہ جماعت کی درست نچلی سطح؛ fm_1 = بہتاتیہ جماعت سے پہلے والی جماعت کی تعداد؛ fm_2 = بہتاتیہ جماعت سے بعد والے جماعت کی تعداد؛ i = وقفہ جماعت کا سائز؛ یہاں بہتاتیہ جماعت سے مراد وہ جماعت ہے جس کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ یہاں بہتاتیہ وقفہ جماعت (Modal Class) = وہ وقفہ جماعت جس کی تعداد سب سے زیادہ یعنی 7 ہے $\approx 50-54$

$$اب، L = 49.5؛ fm_1 = 6؛ fm_2 = 5؛ i = 5$$

$$Mo = 49.5 + \{5/(6+5)\} * 5 = 51.77$$

تعلیمی صورت حال اور بہتاتیہ کا استعمال: بہتاتیہ کو مندرجہ ذیل تعلیمی صورتوں میں استعمال کیا جاسکتا ہے:

- ☆ بہتاتیہ سب سے آسانی اور جلدی سے حاصل کیا جانے والا مرکزی رجحان ہے
- ☆ جب مرکزی رجحان کی پیمائش کے طور پر ایک مخصوص قدر کی ضرورت ہو مثلاً کلاس میں سب سے زیادہ مقبول لڑکا یا تعطیلاتی کوریسیس کے متعلق طلباء میں اعتقاد وغیرہ۔
- ☆ جب فوراً مرکزی رجحان کی قریبی پیمائش درکار ہو۔
- ☆ جب ڈاٹا نامکمل ہو اور تقسیم کاری میں کئی ہواور زیادہ تر قدریں انہتائی ہوں۔
- ☆ بہتاتیہ کی محدودیت:- بہتاتیہ کا استعمال مرکزی رجحان کے طور پر کرنے سے مندرجہ ذیل پریشانیوں ہو سکتی ہے۔
- ☆ یہ صرف ایک رف (Crude) تجزیہ ہی دیتا ہے
- ☆ یہ ضروری نہیں ایک ہی بہتاتیہ ہو۔
- ☆ یہ ضروری نہیں ہے بہتاتیہ مرکزی اسکور ہی ہو۔ کنار پر موجود کوئی اسکور بھی بہتاتیہ ہو سکتا ہے۔
- ☆ یہ بہت ہی عارضی ہوتا ہے گروہ کے کچھ طلباء، کبھی کبھی ایک دو طلباء کے اسکور میں تبدیلی ہونے پر بہتاتیہ کے قدر میں بھی تبدیلی ہو سکتی ہے۔

5.3.4.4 اوسط وسطانیہ اور بہتاتیہ کے درمیان رشتہ:

مختلف قسم کے ڈاٹا سے آپ کا سابقہ پڑنے پر آپ دیکھیں گے کہ یہ تینوں مرکزی رجحان کی پیمائش ایک دوسرے سے بہت قریب یا پھر منحرف ہیں یہ بڑی حد تک تقسیم کاری کی فطرت پر منحصر ہوتا ہے۔ کامل متشابہہ بہتاتیہ تقسیم کاریوں میں تینوں پیمائش ایک دوسرے سے بہت قریب ہوتی ہیں یہاں تک کہ ہو، ہو وہی ہوتی ہیں۔ تقسیم کاری کی متشابہت میں تبدیلی سے تینوں پیمائشوں (اوسط وسطانیہ اور بہتاتیہ) میں بھی انحراف واقع ہوتا ہے۔ تینوں کے درمیان ایک خام رشتہ درج ذیل مساوات کے ذریعہ دکھایا جاسکتا ہے:

$$Mo = 3Mdn - 2M$$

5.3.5 انحراف کی پیمائش (Measures of Variation)

مرکزی رجحان کی پیمائش کو مختلف ڈاٹا کے اظہار اور تقابل کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ لیکن اس سے اس کی تغیر پذیری معلوم نہیں کی جاسکتی۔ وہ خصوصیت جو مرکزی قیمت کے گرد منتشر اقدار کی حد کا اظہار کرتی ہے انحراف کہلاتی ہے۔ انحراف کو انتشار، پھیلاؤ، بکھراؤ یا تغیر پذیری سے بھی موسوم کیا جاتا ہے۔ انحراف کی پیمائش سے اقدار کی تغیر پذیری کی کمیت کی پیمائش فراہم ہوتی ہے۔ جس طرح مرکزی رجحان کی پیمائش، پیمائش پیمانے پر ایک نقطہ سے ظاہر ہوتی ہے اسی طرح انتشار کی پیمائش بھی پیمائش پیمانے پر فاصلے سے ظاہر کی جاسکتی ہے۔ انتشار کی پیمائش کے عام استعمالات میں وسعت (Range)، ربع تقسیمی انحراف، اوسط انحراف اور معیاری انحراف شامل ہیں۔

(a) وسعت (Range)

تغیر پذیری کا سب سے آسان اور جلدی معلوم ہو سکنے والی پیمائش وسعت ہے۔ لیکن یہ ایک سب سے خام یارف (Crude) پیمائش ہے۔ وسعت انحراف کی پیمائش کی سادہ ترین شکل ہے۔ یہ کسی تغیر کی اعظم ترین (extreme) قیمتوں میں فرق کا اظہار کرتی ہے۔ سب سے بڑے اور سب سے چھوٹے اسکور کے درمیان فرق وسعت (Range) بتاتا ہے کہ گروپ کے اسکورس کتنی دوری میں پھیلے ہوئے ہیں۔ وسعت معلوم کرنے کے لیے سب سے بڑے اسکور میں سے سب سے چھوٹا اسکور کم کر کے ایک جوڑ دیتے ہیں۔ درحقیقت وسعت معلوم کرنے کے لیے سب سے بڑے اسکور کی اوپری حد میں سب سے چھوٹے اسکور کی نیچلی حد کم کرنا ہوتی ہے۔

$$\text{Range} = (\text{Highest Score} - \text{Lowest Score})$$

(مثال 1): جیسے جدول 5.24 میں طلباء کے ٹسٹ میں عظیم ترین نشانات 55 اور کم ترین نشانات 28 ہیں تو اس کے لیے وسعت یا فاصلہ (Range) حسب ذیل طریقہ سے معلوم کر سکتے ہیں:

$$\text{Range} = (55-28)$$

جدول 5.24 Class Length Range

Class	Marks Obtained by the Students
8th Standard	28, 30, 32, 33, 35, 35, 36, 36, 36, 37, 37, 38, 38, 39, 39, 39, 39, 40, 40, 40, 41, 41, 41, 42, 42, 42, 43, 43, 43, 44, 44, 44, 45, 45, 46, 46, 46, 47, 47, 48, 48, 49, 49, 50, 50, 51, 52, 53, 54, 55

(b) ربع تقسیمی انحراف (Quartile Deviation)

تغیر پذیری پیمائش کے لیے سب سے عام ربع انحراف (Quartile Deviation) ہے جو دی گئی تقسیم کاری کی درمیانی 50 فی صد اقدار پر مبنی ہوتا ہے۔ ربع انحراف سے پہلے ہمیں ربع تقسیم کو سمجھ لینا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ وسطانیہ کسی متغیر کی وہ قدر ہے جو تقسیم کاری کے جملہ تعداد کو دو مساوی حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ ربع تقسیم کی تعریف ان متغیرہ اقدار کے طور پر کی جاسکتی ہے جو جملہ تعداد کو چار مساوی حصوں میں تقسیم کر دیتی

ہے۔ ربعوں کو Q1, Q2 اور Q3 سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ Q2 اور وسطانیہ ایک ہی شے ہیں۔ زیریں نصف متغیر کی وہ قدر جو وسطانیہ کے نیچے کی تعداد کی بنیاد پر مساوی تقسیم کرتی ہے، زیریں ربع (Lower Quartile) کہلاتی ہے۔ اسے Q1 کے ذریعے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح بالائی نصف جو وسطانیہ سے اوپر کے تعداد کی بنیاد پر دو حصوں میں منقسم ہوتا ہے تو متغیر کی قدر کو بالا ربع (Upper Quartile) کہتے ہیں اور اسے Q3 سے ظاہر کرتے ہیں۔ دو ربعوں کا درمیانی فرق یعنی Q1 اور Q3 بین تقسیم وسعت (Inter Quartiel Range) کو ظاہر کرتا ہے۔ اس فرق کا نصف جو نیم بین ربع وسعت (Semi Inter Quartile Range) ہے ربعی انحراف (Quartile Deviation) کہلاتا ہے۔ اسے Q سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اس طرح ربعی انحراف کا ضابطہ مندرجہ ذیل ہے:

$$Q = \frac{Q_3 - Q_1}{2}$$

جہاں Q1 پہلے ربع اور Q3 تیسرا ربع ہے اور ان کی پیمائش مندرجہ ذیل ضابطہ سے کی جاتی ہے:

$$Q_3 = L + \frac{3N/4 - C_f}{f} * i \quad \text{اور} \quad Q_1 = L + \frac{N/4 - C_f}{f} * i$$

جہاں Q1 پہلے ربع اور Q3 تیسرا ربع ہے اور L متعلقہ جماعت کی درست نچلی حد، N کل تعداد، Cf اور Q1 جماعت

سے پہلے کی مجموعی تعداد اور i وقفہ جماعت ہے

مثال (2) 40 طلباء کے کسی سٹٹ پر حاصل اسکور کی تقسیم کاری مندرجہ ذیل ہے۔ اس اسکورس کے لیے ربعی انحراف کو محسوب کیجیے۔

جدول (A) 5.25: ربعی انحراف کے لیے سٹٹ پر حاصل اسکور کی تقسیم کاری

30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	حاصل کردہ نشانات
2	4	5	8	9	6	4	2	f

حل: اس تقسیم کاری کے ربعی انحراف کو محسوب کرنے کے لیے ہم مندرجہ ذیل ضابطہ کا استعمال کریں گے:

$$Q = \frac{Q_3 - Q_1}{2}$$

جہاں Q1 پہلے ربع اور Q3 تیسرا ربع ہے اور ان کی پیمائش مندرجہ ذیل ضابطہ سے کی جاتی ہے:

$$Q_3 = L + \frac{3N/4 - C_f}{f} * i \quad \text{اور} \quad Q_1 = L + \frac{N/4 - C_f}{f} * i$$

جہاں Q1 پہلے ربع اور Q3 تیسرا ربع ہے اور L متعلقہ جماعت کی درست نچلی حد، N کل تعداد، Cf اور Q1 جماعت

سے پہلے کی مجموعی تعداد اور i وقفہ جماعت ہے۔ اب ضابطہ کے اعتبار سے جدول سازی کرنے پر:

جدول (B) 5.25: ربعی انحراف کے لیے ٹیٹ پر حاصل اسکور کی تقسیم کاری کی ضابطہ کے اعتبار سے جدول سازی

Cf	f	حاصل کردہ نشانات
40	2	65-69
38	4	60-64
34	6 f_3	55-59
28 C_3	9	50-54
19	8	45-49
11	5 f_1	40-44
06 C_1	4	35-39
2	2	30-34
	N=40	i = 5

Q_1 کی قدر: $\left(\frac{N}{4}\right)^{th}$ یعنی 10^{th} قدر پر مشتمل جماعت 40-44 ہے (مجموعی تعداد کالم دیکھیے)۔

اب، $L=39.5$ ؛ $C_f = 6$ ؛ $f=5$ ؛ $i=5$ ؛ اس لیے

$$Q_1 = 39.5 + \{(10-6)/5\} \times 5 = 43.50$$

Q_3 کی قدر: $\left(\frac{3N}{4}\right)^{th}$ یعنی 30^{th} قدر پر مشتمل جماعت 55-59 ہے (مجموعی تعداد کالم دیکھیے)۔

اب، $L=54.5$ ؛ $C_f = 28$ ؛ $f=6$ ؛ $i=5$ ؛ اس لیے

$$Q_3 = 54.5 + \{(30-28)/6\} \times 5 = 54.5 + 1.67 = 56.17$$

Q کی قدر:

$$Q = (Q_3 - Q_1)/2 = (56.17 - 43.50)/2 = 12.67/2 = 6.34$$

(c) اوسط انحراف (Mean or Average Deviation)

مرکزی نقطے سے کسی حاصل کردہ نشان کے فاصلے کو انحراف کہتے ہیں۔ تقسیم کاری میں تمام اقدار کی تغیر پذیری کا احاطہ کرنے کا سادہ ترین طریقہ یہ ہے کہ مرکزی رجحان کے ایک منتخب نقطے سے ان تمام انحرافات کا اوسط نکالا جائے۔ عام طور پر اس انحراف کو تقسیم کاری کے اوسط سے کیا جاتا ہے۔ تمام اقدار کے ہندسی اوسط سے حاصل شدہ انحرافات کو اوسط انحراف کہتے ہیں۔ مرکزی رجحان کی پیمائشی پیمانے پر ایسا نقطہ ہوتا ہے جس کے دونوں اطراف متعدد قیمتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے اس نقطے سے انحرافات دو مخالف سمتوں میں ہوں گے جو مثبت بھی ہوں گے اور منفی بھی۔ اگر نشانات کو X کے ذریعے ظاہر کیا جائے اور اوسط کو M کے ذریعے تو $(X-M)$ اوسط سے حاصل کردہ نشانات کے انحراف کو ظاہر کرتا ہے۔ جہاں پر بھی اوسط

حاصل کردہ نشانات سے بڑا ہوا انحراف مثبت ہوگا۔ اب اوسط کی تعریف کے مطابق مرکزی رجحان ہونے کی صورت میں ان تمام انحرافات کا ہندسی جوڑ صفر ہوگا کیونکہ دونوں اطراف کے انحرافات مساوی ہے۔ اس مسئلے سے بچنے کے لیے ان انحرافات کی مطلق قیمتیں یعنی (X-M) بلا لحاظ علامت (منفی یا مثبت) لی جاتی ہیں۔

اوسط انحراف کی تحسیب:

☆ غیر گروہ بند ڈاٹا (Ungrouped data) میں اوسط انحراف: غیر گروہ بند ڈاٹا میں اوسط انحراف کا ضابطہ مندرجہ ذیل ہوگا:

$$MD = \frac{\sum |X - M|}{N}$$

جہاں MD = اوسط انحراف؛ X = حاصل کردہ نشانات؛ M = اوسط اور N = مجموعی تعداد۔

مثال (۳) ذیل میں دیئے گئے محصلہ نشانات کے لیے اوسط انحراف معلوم کیجیے:

جدول 5.26: طلباء کے ذریعے محصلہ نشانات

مضمون	محصلہ نشانات
سماجی علوم	25, 36, 18, 29, 30, 41, 49, 26, 16, 27

حل: مندرجہ ذیل ضابطہ کا استعمال کریں گے:

$$MD = \frac{\sum |X - M|}{N}$$

جہاں MD = اوسط انحراف؛ X = حاصل کردہ نشانات؛ M = اوسط اور N = مجموعی تعداد۔

اب سب سے پہلے ہم اوسط کی تحسیب کریں گے:

$$M = \frac{\sum X}{N} = 297/10 = 29.7$$

درج بالا نشانات کا اوسط 29.7 محسوب کیا گیا ہے۔ اب اوسط انحراف معلوم کرنے کے لیے پہلے کالم میں اسی طرح نشانات لکھیں گے اور

دوسرے کالم میں اوسط سے انحرافات کی مطلق قیمتیں درج کریں گے جیسا کہ جدول 5.26 میں پیش کیا گیا ہے:

جدول 5.27: ضابطہ کے اعتبار سے طلباء کے ذریعے محصلہ نشانات کی جدول سازی

$ X - M $	X
4.7	25
6.3	36
11.7	18
0.7	29
0.3	30
11.3	41
19.3	49
3.7	26
13.7	16
2.7	27
$\Sigma X - M = 74.5$	297

اب اوسط انحراف کے لیے

$$M = 297/10 = 29.7$$

$$MD = \frac{\Sigma|X - M|}{N} = 74.4/10 = 7.44$$

☆ گروہ بند ڈاٹا (Grouped data) میں اوسط انحراف: گروہ بند ڈاٹا میں اوسط انحراف معلوم کرنے کے لیے مندرجہ ذیل ضابطہ کا

استعمال کیا جاتا ہے:

$$MD = \frac{\Sigma fd}{N}$$

اگر گروہ بند ڈاٹا اسکور X اور اس کی تعداد 'f' کی شکل میں دی گئی ہے تو $d = X - M$ جہاں X اسکور اور M اوسط ہے؛

اگر گروہ بند ڈاٹا وقفہ جماعت اور اس کی تعداد 'f' کی شکل میں دی گئی ہے تو $d = m - M$ جہاں m وسطی نقطہ اور M اوسط ہے۔

مثال (۴): درج ذیل تعدادی تقسیم کاری کے لیے اوسط انحراف معلوم کیجیے:

جدول 5.28(A): اوسط انحراف کے لیے تعدادی تقسیم کاری

40-44	35-39	30-34	25-29	20-24	15-19	10-14	کلاس
3	5	10	14	8	6	4	f

حل: اس تقسیم کاری کے لیے اوسط انحراف کی تحسیب کی لیے ہم مندرجہ ذیل ضابطہ کا استعمال کریں گے:

$$MD = \frac{\Sigma fd}{N}$$

MD = اوسط انحراف؛ $m-M=d$ جہاں m وسطی نقطہ اور M اوسط ہے؛ اور اوسط کی تحسیب کے لیے اس ضابطہ کا استعمال کریں گے:

$$M = \frac{\sum fm}{N}$$

جدول (B) 5.28: اوسط انحراف کی تحسیب کے لیے ضابطہ کے اعتبار سے تعدادی تقسیم کاری کی جدول سازی

f d	d = m - M	fm	f	وسطی نقاط (m)	CI
45.9	15.3	126	3	42	40-44
51.5	10.3	185	5	37	35-39
53.0	5.3	320	10	32	30-34
4.2	0.3	378	14	27	25-29
37.6	4.7	176	8	22	20-24
58.2	9.7	102	6	17	15-19
58.8	14.7	048	4	12	10-14
$\sum f d = 309.2$		$\sum fm = 1335$	50		

$$M = \frac{\sum fm}{N} = 1335/50 = 26.7$$

$$MD = \frac{\sum fd}{N} = 309.2/50 = 6.18$$

(d) معیاری انحراف (Standard Deviation)

انحراف کی تمام پیمائشوں میں معیاری انحراف سب سے زیادہ استعمال کی جانے والی پیمائش ہے۔ یہ سب سے اہم بھی ہے کیونکہ یہی واحد انحرافی پیمائش ہے جو الجبرائی حسابات کے لیے موافق ہے۔ اس میں بھی اوسط سے تمام اقدار کے انحرافات لی جاتی ہیں۔ تاہم اوسط سے مجموعی انحراف یعنی $(X-M)$ ہمیشہ صفر ہوتا ہے۔ اوسط انحراف کی صورت میں اس مسئلہ کا حل اوسط سے انحرافات کی مطلق قیمت یعنی $(X-M)$ کی مثبت قیمت لے کر کیا گیا۔ اس کا دوسرا متبادل حل یہ ہے کہ انحراف کا مربع کر دیا جائے اس لیے کہ کسی بھی مثبت یا منفی قیمت کا مربع ہمیشہ مثبت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ قیمت کا مربع کرنے سے یہ پیمائش مزید حساس بھی ہو جاتی ہے کیونکہ قیمت میں کسی بھی تبدیلی سے اس پر بڑا اثر پڑتا ہے۔ اس لیے معیاری انحراف میں تمام قیمتوں کا اوسط سے انحرافات کا مربع لیا جاتا ہے۔ اوسط مربع انحراف کو تغیر پذیری (Variance) کہتے ہیں اور تغیر پذیری کا مثبت جذر المربع لیں تو اسے معیاری انحراف کہا جائے گا۔ اس لیے معیاری انحراف کو جذر اوسط مربع انحراف (Root mean Square Deviation) بھی کہا جاتا ہے اور اسے SD یا علامت σ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

معیاری انحراف کی تحسیب: آئیے غیر گروہ بند اور گروہ بند ڈاٹا کے لیے معیاری انحراف محسوب کرنا سیکھیں۔

☆ غیر گروہ بند ڈاٹا کے لیے معیاری انحراف کی تحسیب: غیر گروہ بند ڈاٹا کے لیے معیاری انحراف کا فارمولہ یا ضابطہ مندرجہ ذیل ہے:

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum(X-M)^2}{N}}$$

جہاں SD معیاری انحراف؛ X متغیر کی قیمت؛ M تقسیم کاری کا اوسط اور N تقسیم کاری کی مجموعی صورتوں کی تعداد ہے۔
مثال (5) درج ذیل نشانات کے لیے معیاری انحراف معلوم کیجیے:

جدول 5.29 پانچ طلباء کے ریاضی میں حاصل کردہ نشانات

مضمون	حاصل کردہ نشانات
ریاضی	8, 9, 10, 13, 15

حل: معیاری انحراف کی تحسیب کے لیے مندرجہ ذیل ضابطہ کا استعمال کریں گے:

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum(X-M)^2}{N}}$$

جہاں SD معیاری انحراف؛ X متغیر کی قیمت؛ M تقسیم کاری کا اوسط اور N تقسیم کاری کی کل تعداد ہے۔

$$M = \frac{\sum X}{N} = 55/5 = 11$$

جدول 5.30: حاصل کردہ نشانات کی معیاری انحراف کے ضابطہ کے اعتبار سے جدول سازی

حاصل کردہ نشانات	X-M	(X-M) ²
15	4	16
13	2	04
10	-1	01
9	-2	04
8	-3	09
55		$\sum(X-M)^2 = 34$

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum(X-M)^2}{N}} = \sqrt{\frac{34}{5}} = 2.61$$

☆ گروہ بند ڈاٹا کے لیے معیاری انحراف کی تحسیب: گروہ بند ڈاٹا کے لیے معیاری انحراف کی تحسیب ہم دو طریقہ سے کر سکتے ہیں۔
ایک طویل طریقہ اور دوسرے مختصر طریقہ۔

طویل طریقہ سے معیاری انحراف تحسیب کرنے کے لیے مندرجہ ذیل ضابطہ کا استعمال کیا جاتا ہے:

$$SD = \sqrt{\frac{\sum fd^2}{N}}$$

اگر گروہ بند ڈاٹا اسکور X اور اس کی تعداد 'F' کی شکل میں دی گئی ہے تو $d = X - M$ جہاں X اسکور اور M اوسط ہے؛

اگر گروہ بند ڈاٹا وقفہ جماعت اور اس کی تعداد 'F' کی شکل میں دی گئی ہے تو $d = m - M$ جہاں m سطحی نقطہ اور M اوسط ہے۔

مختصر طریقہ سے معیاری انحراف تحسیب کرنے کے لیے مندرجہ ذیل ضابطہ کا استعمال کیا جاتا ہے:

$$SD = \sqrt{\frac{\sum fd^2}{N} - \left(\frac{\sum fd}{N}\right)^2} * i$$

جہاں SD معیاری انحراف؛ d اسکور یا وسطی نقاط کا مفروضہ اوسط سے اکائی فرق ($d = \frac{m-A}{i}$) جہاں m اسکور یا وسطی نقاط؛ A:

مفروضہ اوسط؛ i وقفہ جماعت؛ f تعداد اور N تقسیم کاری کی کل تعداد ہے۔ اس کو مرحلہ انحرافی طریقہ (Step Deviation Method) بھی کہا جاتا ہے۔

مثال 6: درج ذیل تقسیم کاری کے لیے معیاری انحراف معلوم کیجیے:

جدول 5.31: معیاری انحراف کی تحسیب کے لیے تقسیم کاری

جماعتی وقفہ	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54
تعداد	2	3	8	12	10	8	6	1

حل: دی گئی تقسیم کاری کے معیاری انحراف کی تحسیب کے لیے پہلے ہم طویل طریقہ اور اس کے بعد مختصر طریقہ کا استعمال کریں گے۔ مندرجہ ذیل ضابطہ کا استعمال کریں گے:

☆ طویل طریقہ سے معیاری انحراف کی تحسیب کرنے کے لیے مندرجہ ذیل ضابطہ کا استعمال کیا جاتا ہے:

$$SD = \sqrt{\frac{\sum fd^2}{N}} \quad ; \quad d = m - M \quad \text{جہاں } m \text{ وسطی نقطہ اور } M \text{ اوسط ہے۔}$$

جدول 5.32: معیاری انحراف کے طویل طریقہ کے ضابطہ کے اعتبار سے جدول سازی

جماعتی وقفہ (CI)	تعداد (f)	m	fm	d=m-M	d ²	fd ²
50-54	1	52	52	17.2	295.84	295.84
45-49	6	47	282	12.2	148.84	893.04
40-44	8	42	336	7.2	51.84	414.72
35-39	10	37	370	2.2	4.84	48.04
30-34	12	32	384	-2.8	7.84	94.08
25-29	8	27	216	-7.8	6.84	486.72
20-24	3	22	66	-12.8	168.84	491.52
15-19	2	17	34	-17.8	316.84	633.68
	N=50		$\sum fm = 1740$			$\sum fd^2 = 3358.00$

$$M = \frac{\sum fm}{N} = 1740/50 = 34.8$$

$$SD = \sqrt{\frac{\sum fd^2}{N} - \left(\frac{\sum fd}{N}\right)^2} = \sqrt{\frac{3358}{50} - \left(\frac{28}{50}\right)^2} = 8.20$$

☆ مختصر طریقہ سے معیاری انحراف تحسیب کرنے کے لیے مندرجہ ذیل ضابطہ کا استعمال کیا جاتا ہے:

$$SD = \sqrt{\frac{\sum fd^2}{N} - \left(\frac{\sum fd}{N}\right)^2} * i$$

جہاں SD معیاری انحراف؛ d اسکور یا وسطی نقاط کا مفروضہ اوسط سے اکائی فرق (

d = $\frac{m - A}{i}$ جہاں m اسکور یا وسطی نقاط؛ A مفروضہ اوسط؛ i وقفہ جماعت)؛ f تعداد اور N تقسیم کاری کی کل تعداد ہے۔

جدول: 5.33 معیاری انحراف کے مختصر طریقہ کے ضابطہ کے اعتبار سے جدول سازی

fd ²	d ²	fd	d	m	تعداد (f)	جماعتی وقفہ (CI)
16	16	04	4	52	1	50-54
54	09	18	3	47	6	45-49
32	04	16	2	42	8	40-44
10	01	10	1	37	10	35-39
00	00	00	0	32	12	30-34
08	01	-08	-1	27	8	25-29
12	04	-06	-2	22	3	20-24
18	09	-06	-3	17	2	15-19
$\sum fd^2 = 150$		$\sum fd = +28$			N = 50	i = 5

یہاں پر ہم نے مفروضہ اوسط وقفہ جماعت 30-34 کے وسطی نقاط یعنی 32 کو مانا ہے یعنی A=32

$$SD = \sqrt{\frac{\sum fd^2}{N} - \left(\frac{\sum fd}{N}\right)^2} * i = \sqrt{\frac{150}{50} - \left(\frac{28}{50}\right)^2} * 5 = 8.20$$

(e) تغیر پذیری کی شرح (Coefficient of Variation)

جب دو تو اترات یا تقسیم کاریوں کو یکساں اکائی میں ظاہر کیا جائے اور ان کی اوسط قیمت کم و بیش ایک جیسی ہو تب دونوں تقسیم کاریوں کے معیاری انحرافات کا راست موازنہ کیا جاسکتا ہے۔ تاہم اگر اکائیاں مختلف ہوں اور دونوں تقسیم کاریوں کی اوسط قیمت بھی کافی مختلف ہو تو دونوں کا راست موازنہ صحیح تصور پر پیش نہیں کرے گا۔ ایسی صورت میں اس کے لیے ہمیں تغیر پذیری کی ایسی پیمائش کی ضرورت ہے جو اکائی پر منحصر نہ ہو اور اوسطوں کو ہی لے۔ ایسی پیمائش تغیر پذیری کی شرح (Coefficient of Variation) یا متعلق معیاری انحراف (Relative Standard

(Deviation) ہے جسے فی صد کے طور پر ظاہر کیا جاتا ہے جو حسب ذیل ہے:


CV = 100*(SD/M) جہاں CV تغیر پذیری کی شرح؛ SD معیاری انحراف اور M اوسط ہے۔

تعلیمی پیمانوں میں اگر CV کی قدر 5% سے کم اور 35% سے زائد پائی جائے تو اس کو استثنائی تغیر (Exceptional Variation) کے درجہ میں رکھا جاسکتا ہے۔

5.3.6 عمودی احتمالی منحنی (Normal Probability Curve-NPC)

اگر ایک معیاری ٹسٹ کے ذریعہ کسی جماعت کی طلباء کی جانچ کی جائے اور حاصل شدہ اسکورس کا مشاہدہ کیا جائے تو ہم پاتے ہیں کہ اوسط اسکور حاصل کرنے والے طلباء کی تعداد زیادہ ہوتی ہے اور اوسط سے زیادہ اسکور حاصل کرنے والے طلباء کی تعداد کم ہوتی ہے اور اسی طرح اوسط سے کم اسکور حاصل کرنے والے طلباء کی تعداد بھی کم ہوتی ہے۔ اگر ان اسکور کی تقسیم کاری کا مشاہدہ کریں تو ہم پاتے ہیں کہ عام طور پر عظیم ترین تو اتر (frequency) تقسیم کاری کی مرکزی قیمت میں واقع ہوتی ہے اور تو اترات اس قیمت کے دونوں جانب متشاکل (Symmetrical) طور پر بتدریج کم ہوتی جاتی ہے۔ اگر اس تقسیم کاری کا تو اتر کثیر ضلعی کھینچیں تو ہمیں ایک گھٹی نما منحنی حاصل ہوگی اور اگر آپ اوسط، وسطانیہ اور بہتاتیہ کی قیمتیں محسوب کریں تو پائیں گے کہ یہ تینوں قریب قریب یکساں ہیں۔ یہ گھٹی نما منحنی اصطلاحاً عمودی احتمالی منحنی (Normal Probability Curve-NPC) کہلاتی ہے اور اس سے متعلقہ تو اتر تقسیم کاری کو جس میں اسکورز کے مرکزی رجحان کی تینوں پیمائشیں مساوی رہتی ہیں، عمودی تقسیم کاری کہلاتا ہے۔

یہ عمودی تقسیم کاری تعلیمی پیمائش کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ عمودی احتمالی منحنی کی بنیاد احتمال یا اتفاق کے کلیہ (Probability Theorem) پر ہے جیسے ایک فرانسیسی ریاضی داں ابراہیم دیموور (Abraham de Moivre) : 1667-1754 نے اٹھارویں صدی میں دریافت کیا تھا اور اس نے اس کی مساوات اور ترتیبی نمائندگی بھی ڈیولپ کی تھی۔



شکل 5.6: عمودی احتمالی منحنی اور مخصوص معیاری انحراف کے ضمن میں آنے والے فیصد تعداد

5.3.6.1 عمودی احتمالی منحنی کی خصوصیات (Characteristics of NPC)

عمودی احتمالی منحنی کی درج ذیل خصوصیات ہیں:

1. عمودی احتمالی منحنی مرکزی نقطے سے متشاکل (Symmetric) ہوتی ہے۔ اس کے مطلب یہ ہے کہ منحنی کے ایک طرف کی جسامت، شکل اور ڈھلان دوسری طرف سے مماثل ہوتی ہے۔
2. چونکہ عمودی منحنی میں اعظم ترین توازن کا ایک ہی نقطہ پایا جاتا ہے اس لیے یہ منحنی یک بہتاتیہ کی حامل ہوتی ہے یعنی اس کا بہتاتیہ ایک ہی ہوتا ہے۔
3. اعظم ترین ضلعی مختص (Ordinate) ہمیشہ منحنی کے مرکزی یعنی وسطی نقطہ پر واقع ہوتا ہے۔
4. عمودی منحنی افقی محور (X-Axis) پر متقارب طور پر رسائی کرتی ہے یعنی یہ متقاربی (Asymptotic) ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مرکزی نقطے سے دور ہوتے ہوئے منحنی اونچائی میں کم ہوتی جاتی ہے لیکن یہ افقی محور کو کبھی چھوتی نہیں۔ اس کے سرے منفی لامتناہی ($-\infty$) سے مثبت لامتناہی ($+\infty$) تک پھیلتے ہیں۔
5. اعظم ترین نقطہ سے منحنی کی اونچائی متشاکل طور پر دونوں سمتوں میں کم ہوتی جاتی ہے۔
6. عمودی منحنی محذب سے مقعر کی طرف ایک خاص نقطے جسے نقطہ موج (Point of Influx) کہتے ہیں اور جو کہ $\pm 1\sigma$ نقطہ پر واقع ہوتا ہے اپنی سمت تبدیل کرتی ہے۔
7. عمودی منحنی کے دونوں نقاط موج کے اندرون رقبہ متعینہ (تقریباً 68.26%) ہوتا ہے۔
8. عمودی منحنی کے زیریں کل رقبہ کو تقریباً 100 فیصد احتمال تصور کیا جاسکتا ہے۔ اوسط اور کسی بھی نقطہ انحراف کے درمیان رقبہ فاصلہ کی اصلاح میں ہمیشہ یکساں ہوتا ہے۔
9. عمودی منحنی دو پہلوی (Bilateral) ہوتی ہے یعنی منحنی کا 50% حصہ عظیم ترین مرکزی ضلعی مختص سے بائیں طرف اور 50% حصہ دائیں طرف ہوتا ہے۔

5.3.6.2 غیر عمودی تقسیم کاری :


توازن کی کثیر ضلعی یا ہسٹوگرام میں کسی ذہن میں پہلا خیال اس منحنی کے تشاکل موجودگی یا عدم موجودگی کا آتا ہے۔ عمودی منحنی ماڈل اوسط، و سٹانیہ اور بہتاتیہ ایک ہی نقطہ پر واقع ہوتے ہیں اور بائیں اور دائیں جانب کی قیمتوں میں مکمل توازن پایا جاتا ہے۔ عام طور پر عمودی منحنی میں دو اقسام کا انحراف پایا جاتا ہے:

(i) کج پن (Skewness) اور

(ii) کوبانیت (Kurtosis)

- (i) کج پن (Skewness): کسی تقسیم کاری کو کج (Skewed) اس وقت کہا جاتا ہے جب اوسط اور وسطانیہ مختلف نقاط پر واقع ہوں اور توازن یعنی مرکز ثقل کا نقطہ ایک جانب یا دوسری جانب یا دائیں اور بائیں طرف بدلتا ہے۔ کج پن یا مثبت ہوتا ہے یا مثبت۔


- (a) منفی کج پن (Negative Skewness): منفی کج پن اس تقسیم کاری کو کہتے ہیں جو منفی طور پر یا بائیں طرف کج یا خمیدہ ہو۔ جب کہ اسکورز پیمانے کے بلند تر کنارے کی طرف یعنی منحنی کی دائیں جانب ہوتے ہیں اور بتدریج زیریں کنارے یعنی بائیں جانب پھیلتے ہیں۔ منفی طور پر کج تقسیم کاری میں وسطانیہ کی قیمت اوسط کی قیمت سے زیادہ ہوتی ہے۔



شکل 5.7: عمودی منحنی میں کج پن (Skewness)

- (b) عمودی پن (Normal or No Skewness): جیسا کہ ہم پہلے سے ہی جانتے ہیں کہ عمودی منحنی میں کوئی کج پن نہیں پایا جاتا ہے۔
- (c) مثبت کج پن (Positive Skewness): اس میں تقسیم کاری مثبت طور پر بائیں جانب خمیدہ ہوتا ہے جبکہ اسکورز زیریں یعنی بائیں جانب جمع ہوتے ہیں اور پیمانے کے بالائی یعنی دائیں جانب بتدریج پھیلتے جاتے ہیں جیسا کہ شکل میں دکھایا گیا ہے۔
- (ii) کوہانیت (Kurtosis): کوہانیت منحنی کی اونچائی خصوصاً نقطہ راس (Peakedness) میں انحراف (Divergence) کو ظاہر کرتا ہے۔ منحنی کے راس میں انحراف کی تین اقسام ہیں:

- (a) لپٹو کرٹک (Lepto Kurtic)؛ (b) میزو کرٹک (Meso Kurtic)؛ (c) پلٹی کرٹک (Platy Kurtic)۔



شکل 5.7: عمودی منحنی میں کوہانیت (Kurtosis)

- (a) لیٹو کرٹک (Lepto Kurtic): لیٹو کرٹک تقسیم کاری میں تعداد مرکز کی طرف زیادہ نوکیلا (Peaked) ہوتا ہے بالمقابل عمودی تقسیم کاری منحنی کے۔ جب Ku کی قدر 0.263 سے کم ہوگی تو متعلقہ منحنی لیٹو کرٹک حاصل ہوگی۔
- (b) میزو کرٹک (Meso Kurtic): اگر منحنی کی اونچائی یا کواہنیت عمودی (Normal) ہو تو اس کو میزو کرٹک (Meso Kurtic) کہتے ہیں۔ جب تقسیم کاری اور متعلقہ منحنی عمودی ہوں تو کواہنیت (Ku) کی قدر 0.263 ہوتی ہے
- (c) پلیٹی کرٹک (Platy Kurtic): عمودی تقسیم کاری کے بالمقابل زیادہ چبڑے راس والے تقسیم کاری کو پلیٹی کرٹک تقسیم کاری کہتے ہیں۔ اگر Ku کی قدر 0.263 سے زیادہ ہو تو تقسیم کاری اور متعلقہ حاصل کردہ منحنی پلیٹی کرٹک ہوگی۔

میدان میں متعدد استعمال ہیں جو مندرجہ ذیل بیان کیے گئے ہیں:

- (i) دی گئی حدود یا اسکورز میں کوائف کی فیصد معلوم کرنا۔
 - (ii) کسی دیے گئے اسکورز یا حوالہ جاتی نقطہ کے اوپر یا نیچے فیصد کی کوائف معلوم کرنا۔
 - (iii) اسکورز کے حدود معلوم کرنا جس میں دیے گئے کوائف کی فیصد شامل ہے۔
 - (iv) کسی طالب علم کے اپنے جماعت میں فیصد تقسیمی رتبہ (Percentile Rank) معلوم کرنا۔
 - (v) طالب علم کے فیصد تقسیمی رتبہ سے فیصد تقسیمی قدر دریافت کرنا۔
 - (vi) دو تقسیم کاریوں کے متراکب (Overlapping) کی اصطلاح میں موازنہ کرنا۔
 - (vii) جانچ کی مدت کی نسبتی/اضافی دشواری دریافت کرنا۔
 - (viii) ایک جماعت کو خاص اہلیت کی بنیاد پر ذیلی جماعتوں میں تقسیم کرنا اور گریڈ دینا۔
- عمودی تقسیم کاری کے درج بالا تمام استعمالات کو تعلیمی پیمائش اور تعین قدر کے لیے بروئے کار لانے کے لیے ہمیں عمودی منحنی کے تحت رقبوں کے جدول کو جاننا ضروری ہے۔ یہ جدول اوسط سے σ (سگما) کے مختلف فاصلوں پر لیے گئے ضلعی مختص اور اوسط کے درمیان عمودی منحنی کے تحت مجموعی رقبے کے کسری اجزاء کو ظاہر کرتا ہے۔ عمودی احتمالی منحنی جدول عام طور پر اکائی عمودی منحنی کے تحت رقبوں تک محدود ہوتی ہے جس میں $\sigma=1$ ، $N=1$ ہوتا ہے۔ اگر N اور σ اور کی قیمتیں ان سے مختلف ہوتی ہیں تو پیمائشوں کو سگما اسکورز میں تبدیل کیا جاتا ہے جسے معیاری اسکورز یا Z اسکورز بھی کہتے ہیں۔ اس کا ضابطہ مندرجہ ذیل ہے:

$$Z = \frac{X - M}{\sigma}$$

جہاں Z = معیاری اسکور؛ X = خام اسکور؛ M = اوسط اور σ = معیاری انحراف ہے۔

اس کے بعد اوسط اور Z کی قیمت کے درمیان رقبہ کا تناسب دریافت کرنے کے لیے عمودی احتمالی منحنی کے رقبوں کا جدول دیکھا جاتا ہے۔ گوکہ عمودی منحنی کے تحت مجموعی رقبہ 1 ہے لیکن سہولت کے لیے کل رقبہ 10,000 فرض کیا جاتا ہے تاکہ مجموعی رقبہ کے کسری اجزاء کو آسانی سے حل کیا جاسکے۔

5.3.7 فی صد (Percentage)

فیصد کے معنی ہیں کہ ایک سو (100) میں کتنا۔ یہ دو یا زائد نشانات کا موازنہ کرنے یا وقت کے ساتھ اس میں تبدیلی کی پیمائش کرنے میں بہت مدد کرتا ہے۔ اس کو % سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ کسی اسکور X کا فیصد (Percentage) کی تحسیب کے لیے مندرجہ ذیل ضابطہ کا استعمال کرتے ہیں:

$$\% \text{ of a score } X = \frac{X}{N} * 100$$

جہاں X = وہ اسکور جس کا فیصد محسوب کرنا ہے اور N = وہ کل اسکور جس میں سے اسکور X کا فیصد پتا کرنا ہے۔

مثال: ایک طلب علم نے ریاضی میں 80 نمبرات اور سماجی علوم میں 42 نمبرات حاصل کیے۔ ریاضی کا پرچہ 100 نمبرات پر اور سماجی علوم کا پرچہ 50 نمبرات پر مشتمل تھا۔ دونوں پرچوں میں طالب علم کے ذریعے حاصل شدہ نمبرات کا فیصد محسوب کیجیے۔ یہ بھی بتائیے کہ اس طلب علم کا حصول کس پرچہ میں بہتر ہے؟

حل: ضابطہ کے اعتبار سے

$$100 * (80/100) = 80\% \text{ ریاضی میں حاصل شدہ نمبرات کی فیصد}$$

$$100 * (42/50) = 84\% \text{ سماجی علوم میں حاصل شدہ نمبرات کی فیصد}$$

مندرجہ بالا فیصد کی تحسیب سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ اس طلب علم کا حصول سماجی علوم کے پرچہ میں بہتر ہے۔

5.3.8 فی صد تقسیم (Percentile)

ہم جانتے ہیں کہ ربع تقسیمات کی صورت میں مجموعی تعداد کو چار مساوی حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے جن کو Q1، Q2 اور Q3 کہتے ہیں۔ اسی طرح عشری تقسیمات میں مجموعی تعداد کو دس مساوی حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے جن کو D1، D2، D3، D4، D5، D6، D7، D8، D9 کہتے ہیں۔ فی صد تقسیم کی صورت میں مجموعی تعداد کو 100 مساوی حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ فی صد تقسیم کو P1، P2، P3، P4، P5، P6، P7، P8، P9، P10، P11، P12، P13، P14، P15، P16، P17، P18، P19، P20 سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ فیصد تقسیمات کی تعریف کی ان اقدار کے طور پر کی جاسکتی ہے جو 100 مساوی حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اس لیے P1 کے تحت 1 فیصد صورتیں، P2 کے تحت 2 فیصد صورتیں موجود ہیں؛ وغیرہ۔ وغیرہ۔ اس طرح وسطانیہ کو P50 سے بھی ظاہر کیا جاتا ہے اور Q1 اور Q2 کو بالترتیب P25 اور P75 کے ذریعے بھی ظاہر کرتے ہیں۔ اسی طرح پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں عشری تقسیم کو بالترتیب P10، P20، P30، P40، P50، P60، P70، P80، P90 سے بھی ظاہر کیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ کہا جاسکتا ہے کہ فیصد تقسیم وہ اسکور ہے جس کے نیچے دی گئی اسکورز کی مخصوص فیصد پائی جاتی ہے۔

فیصد تقسیم کی تحسیب: مجموعی تعدادی منحنی (Cumulative Frequency Curve) اور اوجائیو (Ogive) میں مجموعی تعداد کے ساتھ مجموعی فیصد لیا جاتا ہے۔ اوجائیو کی مدد سے آپ بغیر تحسیب کے مختلف فیصد تقسیم معلوم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ فیصد تقسیم کی تحسیب کے لیے مندرجہ ذیل ضابطہ کا استعمال کیا جاتا ہے:

$$P_k = L + \frac{\frac{kN}{100} - C_f}{f} * i$$

جہاں $K = P_k$ واں فیصد تقسیم، $K = L$ ویں جماعت کی درست نچلی سطح، $k =$ وہ فیصد تقسیم جو پتا کرنی ہے، $Cf =$ اس جماعت کے پہلے والے جماعت کی تعداد جس میں K واں فیصد تقسیم موجود ہے، $f =$ اس جماعت کی تعداد جس میں K واں فیصد تقسیم موجود ہے، $i =$ وقفہ جماعت اور کل تعداد $= N$

فیصد تقسیم کی تشریح: فی صد تقسیم کو نشانات کے تعین قدر اور تعبیر و تفہیم کے لیے اکثر استعمال کیا جاتا ہے۔ کسی بھی معیاری سٹٹ کے لیے اس سٹٹ کے ساتھ فیصد تقسیم کے معیارات بھی تیار کیے جاتے ہیں تاکہ حاصل شدہ سٹٹ کے نتائج کی تفہیم مناسب انداز میں کی جاسکے۔ اگر کسی تقسیم کاری میں $P_{45} = 60$ ہو تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس تقسیم کاری میں اسکور 60 کے نیچے 45% اسکورز پائے جاتے ہیں۔ اگر کسی فرد کے محض نانات دے دیئے جائیں تو ان کی کارکردگی کا تعین کرنا مشکل ہوگا۔ کارکردگی کو صرف مخصوص گروپ کے حوالے سے ہی جانچا جاسکتا ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کسی فرد کی مہارت کو صرف فیصد تقسیم کے ذریعے جانچا نہیں جاسکتا کیوں کہ وہی فرد کمزور گروپ میں بہتر درجہ لائے گا اور بہتر گروپ اس کی کارکردگی کا درجہ نسبتاً خراب ہوگا۔

مثال: مندرجہ ذیل ڈاٹا کا 25th فیصد تقسیم کی تحسب کیجیے اور اس کی تشریح کیجیے:

جدول 5.34: فیصد تقسیم کے لیے ڈاٹا

87-89	84-86	81-83	78-80	75-77	72-74	69-71	66-68	63-65	60-62	CI
2	3	4	5	9	7	3	4	2	1	f

حل: مندرجہ بالا ڈاٹا کا 25th فیصد تقسیم کی تحسب کے لیے ہم مندرجہ ذیل ضابطہ کا استعمال کریں گے:

$$P_k = L + \frac{\frac{kN}{100} - C_f}{f} * i$$

جہاں $K = P_k$ واں فیصد تقسیم، $K = L$ ویں جماعت کی درست نچلی سطح، $k =$ وہ فیصد تقسیم جو پتا کرنی ہے، $Cf =$ اس جماعت کے پہلے والے جماعت کی تعداد جس میں K واں فیصد تقسیم موجود ہے، $f =$ اس جماعت کی تعداد جس میں K واں فیصد تقسیم موجود ہے، $i =$ وقفہ جماعت اور کل تعداد $= N$

جدول 5.35: فیصد تقسیم کے لیے دیے گئے ڈاٹا کی جدول سازی

C_f	f	CI
1	1	60-62
3	2	63-65
7	4	66-68
10	3	69-71
17	7	72-74
26	9	75-77

31	5	78-80
35	4	81-83
38	3	84-86
40	2	87-89
	N=40	

$$25^{\text{th}} \text{ Class} = (25 * 40) / 100 = 10^{\text{th}} \text{ Class} \approx 69-71$$

$$40 = N, 3 = i, 3 = f, 7 = Cf, 25 = k, 68.5 = L$$

$$P_{25} = 68 + \frac{(25 * 40) / 100 - 7}{3} * 3 = 68.5 + 3 = 71.5$$

مندرجہ بالا فیصد تقسیم سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ اس تقسیم کاری میں 25% نشانات اسکور 71.5 سے نیچے پائے جاتے ہیں۔

5.3.9 فیصد تقسیمی رینک (Percentile Rank)

کسی اسکور کا فیصد تقسیمی رینک تقسیم کاری میں وہ فیصد اسکور ہوتا ہے جو اس کے برابر یا اس سے کم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی طالب علم کے ذریعے ایک جانچ میں حاصل کردہ اسکور (فرض کیجیے 68) اس جانچ میں شامل ہونے والے 80% طلباء کے اسکورز کے برابر یا اس سے بڑا ہے تو اس کا فیصد تقسیمی رینک (Percentile Rank-PR) 80 ہوگا۔ یا یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ اسکور 68 کا 80th فیصد تقسیم (Percentile) ہے (80 = P₈₀ - فیصد تقسیمی رینک کی تحسیب کے لیے مندرجہ ذیل ضابطہ کا استعمال کیا جاتا ہے:

$$PR = \frac{n_w(X - L) + n_b * i}{N * i} * 100$$

جہاں PR = فیصد تقسیمی رینک، X = وہ اسکور جس کا فیصد تقسیمی رینک یعنی PR پتا کرنا ہے، L = اسکور X رکھنے والے جماعت کی درست نچلی سطح، n_w = اسکور X رکھنے والے جماعت کی تعداد، n_b = اسکور X رکھنے والے جماعت سے پہلے کی مجموعی تعداد، i = وقفہ جماعت اور N = کل تعداد

مثال: مندرجہ ذیل تقسیم کاری میں اسکور 76 کی فیصد تقسیمی رینک کی تحسیب اور اس کی تشریح کیجیے:

جدول 5.36: فیصد تقسیمی رینک کے لیے تقسیم کاری

87-89	84-86	81-83	78-80	75-77	72-74	69-71	66-68	63-65	60-62	CI
2	3	4	5	9	7	3	4	2	1	f

حل: مندرجہ بالا تقسیم کاری میں اسکور 76 کی فیصد تقسیمی رینک کی تحسیب کے لیے ہم مندرجہ ذیل ضابطہ کا استعمال کریں گے:

$$PR = \frac{n_w(X - L) + n_b * i}{N * i} * 100$$

جہاں PR = فیصد تقسیمی رینک، X = وہ اسکور جس کا فیصد تقسیمی رینک یعنی PR پتا کرنا ہے، L = اسکور X رکھنے والے جماعت کی درست
 نچلی سطح، n_w = اسکور X رکھنے والے جماعت کی تعداد، n_b = اسکور X رکھنے والے جماعت سے پہلے کی مجموعی تعداد، i = وقفہ جماعت اور N =
 کل تعداد

جدول 5.37: فیصد تقسیمی رینک کے لیے دیے گئے ڈاٹا کی جدول سازی

C_f	f	CI
1	1	60-62
3	2	63-65
7	4	66-68
10	3	69-71
17	7	72-74
26	9	75-77
31	5	78-80
35	4	81-83
38	3	84-86
40	2	87-89

یہاں اسکور $X=76$ رکھنے والی جماعت $\approx 75-77$ اور $L=74.5$ ، $n=7$ ، $n_w=10$ اور $n_b=3$ اور $N=40$

$$PR = \frac{7 * (76 - 74.5) + 10 * 3}{40 * 3} * 100 = \frac{7 * 1.5 + 30}{120} * 100 = 405 / 12 = 33.75$$

مندرجہ بالا فیصد تقسیمی رینک سے یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ 33.75% اسکورز 76 سے نیچے پائے جاتے ہیں۔

5.3.10 ارتباط (Correlation)

دو متغیرات کے درمیان پائے جانے والے رشتہ کو ہی ارتباط یا ہم رشتگی (Correlation) کہتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ
 اگر ایک متغیر میں تبدیلی دوسرے متغیر میں تبدیلی کے ساتھ ہوتی ہو تو دونوں متغیر ہم رشتہ متغیرات کہلائیں گے اور یہ باہمی انحصار ارتباط
 (Correlation) کہلائے گا۔

5.3.10.1 شرح ارتباط (Coefficient of Correlation)

کمیتی طور پر دو متغیرات کے درمیان نسبت یا رشتہ کے درجہ کی پیمائش کے لیے رشتہ کا ایک اشاریہ (index) استعمال کیا جاتا ہے جسے شرح
 ارتباط کہتے ہیں۔ شرح ارتباط ایک عدد ہوتا ہے جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ دو متغیرات باہم کس حد تک مربوط ہیں اور کس حد تک ایک متغیر کی تبدیلی
 دوسرے متغیر میں تبدیلی کے ساتھ ہم آہنگ ہے متغیرات کے درمیان ارتباط کی پیمائش کے نتیجے میں وہ اعظم ترین قدر حاصل ہوتی ہے جو -1 سے

+1 تک وسعت کی حامل ہے۔ 1 کامل شرح ارتباط کو ظاہر کرتا ہے اور 0 صفر ارتباط کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی طرح (+) مثبت اور (-) منفی شرح ارتباط کو ظاہر کرتا ہے۔

5.3.10.2 ارتباط کی اقسام (Types of Correlation)

دو تغیری تقسیم کاری میں ارتباط کے اقسام کو دو طرح سے مشاہدہ کیا جاسکتا ہے جو حسب ذیل ہیں:

(1) مثبت، منفی اور صفر ارتباط

(2) خطی یا منحنی (غیر خطی) ارتباط

(1) مثبت، منفی اور صفر ارتباط: جب ایک متغیر X میں اضافے کے ساتھ ہی دوسرے متغیر (Y) میں اضافہ ہو تو اسے مثبت ارتباط کہتے ہیں۔ مثبت ارتباط کی وسعت 0 سے 1 تک ہے۔ بصورت دیگر اگر ایک متغیر (X) میں اضافے کے نتیجے میں دوسرے متغیر (Y) میں کمی واقع ہو تو اس ارتباط کو منفی ارتباط کہا جائے گا۔ منفی ارتباط کی وسعت (Range) 0 سے -1 تک ہے۔ صفر ارتباط کا مفہوم یہ ہے کہ متغیرات X اور Y میں باہم کوئی رشتہ نہیں ہے یعنی ایک متغیر (X) میں تغیر اور دوسرے متغیر (Y) میں تغیر کے درمیان کوئی نسبت یا تعلق نہیں پایا جاتا ہے۔ مثلاً جسم کا وزن اور ذہانت، جو تے کا سائز اور مایانہ تنخواہ وغیرہ۔ صفر ارتباط وسعت -1 تا +1 کا وسطی نقطہ ہوتا ہے۔

(2) خطی اور منحنی ارتباط: خطی ارتباط دو متغیرات کے درمیان یکساں یا مخالف سمتوں میں تبدیلی کا تناسب ہے اور ایک متغیر کی دوسرے متغیر کے ساتھ گرانی نمائندگی ایک خط مستقیم ہوتی ہے۔ دوسرے صورت میں پہلے ایک متغیر میں اضافہ کے ساتھ دوسرے متغیر میں ایک نقطے تک تناسب میں اضافہ ہوتا ہے۔ بعد ازاں پہلے متغیر میں اضافہ کے ساتھ دوسرا متغیر کم ہونا شروع ہوتا ہے۔ اس طرح دونوں متغیرات کی تریسی نمائندگی ایک منحنی خط ہوگا۔ اس طرح کا رشتہ منحنی یا غیر خطی ارتباط کہلاتا ہے۔

5.3.10.3 شرح ارتباط کی تحسیب کے طریقے:

دو تغیری تقسیم کاری کے غیر گروہ بند ڈاٹا کی صورت میں شرح ارتباط کی تحسیب کے لے ہم درج ذیل طریقوں کا استعمال کریں گے:

(1) فرق رتبہ (Rank Difference) شرح ارتباط یا اسپیرمین (Spearman) کا شرح ترتیب (Rank Order) رتبہ ارتباط

(2) پیئر سن (Pearsons) کا ضربی مومنٹ (Product Moment) شرح ارتباط

(1) فرق رتبہ (Rank Difference) شرح ارتباط یا اسپیرمین (Spearman) کا شرح ترتیب (Rank Order) رتبہ ارتباط [ρ]:

جب دو تغیری متغیر کی پیمائش یا مشاہدات کی بنیاد رتبوں کی شکل میں ترتیبی پیمانہ (Ordinal Scale) پر ہو تو فرق رتبہ شرح ارتباط کی تحسیب مندرجہ ذیل ضابطہ سے کی جاسکتی ہے:

$$\rho = 1 - \frac{6\sum D^2}{N(N^2 - 1)}$$

جہاں ρ = اسپیرمین کا مرتبائی شرح ارتباط؛ D = مرتبہ جات کے جوڑوں کے درمیان فرق؛ N = تعداد

ایک نشانات کا سیٹ لیجیے اور اعظم ترین نشانات کو 1 کا مرتبہ دیجیے، دوسرے اعلیٰ نشانات کو 2 کا مرتبہ دیجیے، اسی طرح تمام نشانات کے

مراتب (Ranks) تفویض کیجیے۔ اسی طرح نشانات کا دوسرا سیٹ لیجیے اور اعظم ترین نشانات کو پہلا مرتبہ دیجیے، اس سے کم نشان حاصل کرنے والے کو 2 کا مرتبہ دیجیے۔ اسی طرح تمام نشانات کے مراتب (Ranks) تفویض کیجیے۔

اگر ایک سے زائد طلباء مساوی نشانات کے حامل ہوں تو ظاہر ہے ان جوڑوں کا مرتبہ بھی یکساں ہوگا۔ اسے تکراری مراتب (Tied Ranks) کہتے ہیں۔ تکراری نشانات کے رتبوں کو تفویض کرنے کا طریقہ غیر تکراری نشانات سے ذرا مختلف ہے۔ طلباء کے مساوی نشانات کا مرتبہ الگ الگ تفویض کرنے کے بجائے دونوں طلباء کو دونوں مرتبوں کا اوسط مرتبہ دیں گے۔ اسی طرح اگر تکرار 3 مقامات پر واقع ہوئی ہو تو طلباء کے مساوی نشانات کے مرتبوں کا اوسط مرتبہ ہر ایک طالب علم کے لیے تفویض کریں گے۔ اسی طرح تین سے زائد مساوی نشانات کا مرتبہ بھی تفویض کریں گے۔

اسپیئر مین کا ترتیبی مرتبائی شرح ارتباط تیز رفتار اور آسان طریقہ ہے۔ تاہم یہ طریقہ اسی وقت قابل قبول ہے جب ڈائنامی ترتیبی شکل میں دیا گیا ہو۔

مثال (1): 8 طلباء پر دو ہفتوں کے وقفے سے لیے گئے دو آزمائشی جانچ I اور II میں حاصل کردہ نشانات دکھائے گئے ہیں۔ فرق مرتبہ طریقے سے دونوں جانچوں کے درمیان ارتباط کی تحسیب کیجیے:

جدول 5.38: دس طلباء کے دو آزمائشی جانچ I اور II میں حاصل کردہ نشانات

27	35	37	27	30	29	27	25	جانچ I
19	16	18	20	14	12	13	14	جانچ II

حل: فرق مرتبہ طریقے سے دونوں جانچوں کے درمیان ارتباط کی تحسیب کے لیے ہم مندرجہ ذیل ضابطہ کا استعمال کریں گے:

$$\rho = 1 - \frac{6\sum D^2}{N(N^2 - 1)}$$

جہاں ρ = اسپئر مین کا مرتبائی شرح ارتباط؛ D = مرتبہ جات کے جوڑوں کے درمیان فرق؛ N = تعداد

جدول 5.39: آٹھ طلباء کے دو آزمائشی جانچ I اور II میں حاصل کردہ نشانات کی ضابطہ کے اعتبار سے جدول سازی

D^2	$D=R1-R2$	جانچ II کا مرتبہ (R2)	جانچ I کا مرتبہ (R1)	جانچ II	جانچ I	طلبا
02.25	1.5	3.5	1.0	14	25	A
01.00	-1.0	2.0	3.0	13	27	B
16.00	-4.0	1.0	5.0	12	29	C
06.25	-2.5	3.5	6.0	14	30	D
25.00	5.0	8.0	3.0	20	27	E
04.00	-2.0	6.0	8.0	18	37	F
04.00	-2.0	5.0	7.0	16	35	G
16.00	4.0	7.0	3.0	19	27	H
$\sum D^2 = 74.50$						

$$\rho = 1 - \frac{6\sum D^2}{N(N^2 - 1)} = 1 - \frac{6 * 74.40}{8(8^2 - 1)} = 1 - 447/504 = 1 - 0.88691 = 0.11$$

مندرجہ بالا ارتباط کی شرح سے ہم یہ کہا جاسکتا ہے کہ جانچ I اور II کے مابین ارتباط مثبت اور لیکن بہت کم ہے۔

(2) پیئرسن (Pearsons) کا ضربی مومنٹ (Product Moment) شرح ارتباط:

سب سے زیادہ مستعمل اور درست ترین ارتباط پیئرسن کا ضربی مومنٹ شرح ارتباط ہے۔ اس کی تحسیب کے لیے ضروری ہے کہ ڈاٹا وقفہ یا نسبت شکل میں دیا گیا ہو اور X اور Y کے تقسیم کاری میں خطی رشتہ موجود ہو۔ پیئرسن کے شرح ارتباط کے لیے درج ذیل ضابطہ کا استعمال کیا جاتا ہے:

$$\rho = \frac{N\sum XY - \sum X \sum Y}{\sqrt{N\sum X^2 - (\sum X)^2} * \sqrt{N\sum Y^2 - (\sum Y)^2}}$$

جہاں $r =$ پیئرسن کا شرح ارتباط؛ $\sum X =$ متغیر X کے نشانات کا مجموعہ؛ $\sum Y =$ متغیر Y کے نشانات کا مجموعہ؛ $\sum XY =$ متغیرات X اور Y نشانات کے ضرب کا مجموعہ؛ $\sum X^2 =$ متغیر X کے نشانات کے مربع کا مجموعہ؛ $\sum Y^2 =$ متغیر Y کے نشانات کے مربع کا مجموعہ؛ اور $N =$ جوڑ بند نشانات کی کل تعداد

مثال (2): درج ذیل نشانات آٹھویں جماعت کے 10 طلباء کے ذریعے ریاضی اور سائنس کے ٹسٹ میں حاصل کردہ ہیں۔ پیئرسن کے شرح ارتباط کی تحسیب کیجیے:

جدول 5.40: آٹھویں جماعت کے 10 طلباء کے ذریعے ریاضی اور سائنس کے ٹسٹ میں حاصل کردہ نشانات

2	3	5	6	6	8	10	10	12	13	ریاضی میں حاصل کردہ نشانات (X)
1	6	7	13	11	9	7	11	14	11	سائنس میں حاصل کردہ نشانات (Y)

حل: پیئرسن کے شرح ارتباط کی تحسیب کے لیے ہم مندرجہ ذیل ضابطہ کا استعمال کریں گے:

$$\rho = \frac{N\sum XY - \sum X \sum Y}{\sqrt{N\sum X^2 - (\sum X)^2} * \sqrt{N\sum Y^2 - (\sum Y)^2}}$$

جہاں $r =$ پیئرسن کا شرح ارتباط؛ $\sum X =$ متغیر X کے نشانات کا مجموعہ؛ $\sum Y =$ متغیر Y کے نشانات کا مجموعہ؛ $\sum XY =$ متغیرات X اور Y نشانات کے ضرب کا مجموعہ؛ $\sum X^2 =$ متغیر X کے نشانات کے مربع کا مجموعہ؛ $\sum Y^2 =$ متغیر Y کے نشانات کے مربع کا مجموعہ؛ اور $N =$ جوڑ بند نشانات کی کل تعداد

جدول 5.41: طلباء کے ذریعے ریاضی اور سائنس کے ٹسٹ میں حاصل کردہ نشانات کی ضابطہ کے اعتبار سے جدول سازی

طلباء	ریاضیٹ میں حاصل کردہ نشانات (X)	سائنس میں حاصل کردہ نشانات (Y)	X ²	Y ²	XY
1	13	11	169	121	143
2	12	14	144	196	168
3	10	11	100	121	110
4	10	07	100	049	070
5	08	09	064	081	072
6	06	11	036	121	066
7	06	13	036	169	078
8	05	07	025	049	035
9	03	06	009	036	018
10	02	01	004	001	002
	$\Sigma X = 75$	$\Sigma Y = 90$	$\Sigma X^2 = 687$	$\Sigma Y^2 = 994$	$\Sigma XY = 762$

$$\rho = \frac{N\Sigma XY - \Sigma X \Sigma Y}{\sqrt{N\Sigma X^2 - (\Sigma X)^2} * \sqrt{N\Sigma Y^2 - (\Sigma Y)^2}}$$

$$= \frac{7620 - 6750}{\sqrt{6070 - 5625} * \sqrt{9440 - 8100}} = \frac{870}{\sqrt{1245} * \sqrt{1340}}$$

$$= \frac{870}{\sqrt{1668300}} = \frac{870}{1291.63} = 0.67$$

مندرجہ بالا ارتباط کی شرح سے یہ کہا جاسکتا ہے کہ ریاضی اور سائنس کے مابین ارتباط مثبت اور زیادہ ہے۔

شرح ارتباط کی تشریح (Interpretation of Coefficient of Correlation):

ارتباط کی محض تحسیب کی کوئی اہمیت نہیں ہے جب تک کہ ہم یہ معلوم نہ کر لیں کہ شرح کی ایک مخصوص مقدار ڈاٹا کے متعلق کیا ظاہر کرتا ہے یا حاصل کردہ شرح ارتباط کے معنی کیا ہیں؟ اس سوال کے جواب کے لیے عموماً شرح ارتباط کی لفظی تشریح بیان کی جاتی ہے۔ شرح ارتباط کی سائز یا مقدار کے اعتبار سے قاعدہ حسب ذیل ہے:

جدول 5.42: شرح ارتباط کی تشریح

ارتباط کا سائز	تشریح
1.00	کامل (Perfect) ارتباط
0.81 - 0.99	بہت اعلیٰ (Very High) ارتباط
0.61 - 0.80	اعلیٰ (High) ارتباط
0.41 - 0.60	معتدل یا اوسط (Average) ارتباط
0.21 - 0.40	ادنیٰ (Low) ارتباط
0.01 - 0.20	بہت ادنیٰ (Very Low) ارتباط
0.00	صفر ارتباط

شرح ارتباط کی مندرجہ بالا تشریح کے ساتھ ہی ساتھ اس بات کی بھی تشریح ہونی چاہیے کہ یہ مثبت ہے یا منفی۔ یہ شرح ارتباط کی مثبت + یا منفی - نشان پر مبنی ہوگا۔ اس کے علاوہ بعض اوقات شرح ارتباط کو علت و معلول کا تعلق (Cause & Effect Relationship) ہونا سمجھ لیا جاتا ہے۔ یعنی ایک متغیر دوسرے متغیر میں تغیری پذیری کا سبب بنتا ہے۔ درحقیقت ہم اس طرح کی تشریح اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک اس کے لیے ہمارے پاس کوئی ٹھوس منطقی بنیاد موجود نہ ہو۔ شرح ارتباط سے ہمیں X اور Y کے درمیان رشتہ کے درجہ کی مقداری قیمت حاصل ہوتی جو کہ محض ان دونوں تغیرات کی باہمی نسبت کی پیمائش ہے نہ کہ دونوں متغیروں کے درمیان نسبت کی نوعیت۔

تعلیمی پیمائش اور تعین قدر میں ارتباط کی اہمیت اور استعمال: ارتباط تعلیمی تعین قدر اور پیمائش کے میدانوں میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا تجربیاتی طریقہ کار ہے۔ یہ صرف متغیرات کے جوڑوں کا رشتہ ہی واضح نہیں کرتا بلکہ یہ درج ذیل کے لیے بھی کارآمد ہے:

- ☆ خود مختار متغیر کی بنا پر تعبیر اور متغیر کے متعلق پیش گوئی کرنا۔
- ☆ جانچ یا پرچہ سوالات کی معتبریت (Reliability) اور معقولیت (Validity) معلوم کرنا۔
- ☆ مختلف ارتباطوں کے کردار کی مخصوص صلاحیت دریافت کرنا۔
- ☆ کسی مخصوص قابلیت میں کارفرما متغیرات کے عوامل دریافت کرنا (جزائی تکنیک - Factor Analysis Technique سے)۔

5.3.11 گریڈ پوائنٹ اوسط (Grade Point Average-GPA)

مارکنگ اسکیم (Marking Scheme) اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ کسی مخصوص اکتسابی سطح کے حصول یا پائی کے نتائج کو ظاہر کرنے کے لیے کونسے نشانات مخصوص کیے گئے ہیں۔ اس میں عام نمبرات جیسے کہ 1، 2، 3، 4 وغیرہ کا استعمال نشانات یا مارکنگ کے طور پر کیا جاتا ہے۔ جبکہ گریڈ بینگ سسٹم (Grading System) میں کسی مخصوص سطح کی اکتسابی کارکردگی کو ظاہر کرنے کے لیے عام نمبرات کے بجائے الفاظ جیسے کہ A، B، C، D وغیرہ کا استعمال نشانات کے طور پر کیا جاتا ہے۔ یہ ایک طرح کے معیاری پیمائش ہوتی ہے جو کہ کسی مضمون کے اندر اس کی مختلف تفہیمی سطحوں سے منسلک ہوتی ہے۔ ہر ایک گریڈ نشانات کے مخصوص دائرہ یا وسعت (Range) کو ظاہر کرتا ہے جس کو کیفیاتی طور پر بہت اچھا، اچھا، ٹھیک

ٹھاک، کم، بہت کم وغیرہ۔ وغیرہ سے ظاہر کرتے ہیں۔ مارکینگ سسٹم میں طلباء کے اندر جو نشانات کا ڈر، خوف یا یوں کہیں ہیبت (Phobia) ہوتی ہے وہ گریڈینگ سسٹم میں کم ہو جاتا ہے اس لیے کہ اس میں مخصوص نمبر کا استعمال کرنے کے بجائے نمبر کے مخصوص دائرے کا استعمال کیا جاتا ہے اور اُن کو الفاظ کے شکل میں ظاہر کرتے ہیں۔ اسی طرح ہر ایک گریڈ (Grade) کے لیے ایک مخصوص نمبر کا استعمال کیا جاتا ہے جس کو گریڈ پوائنٹ (Grade Point) کہتے ہیں۔ گریڈ پوائنٹ عام طور پر ایک سے دس تک ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کریڈٹ نظام (Credit System) میں ہر ایک کورس کی درس و تدریس کے لیے ضروری درکار وقت یعنی گھنٹوں کے اعتبار سے ایک مخصوص کریڈٹ طع کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ریاضی کے لیے پورے سال میں 80 گھنٹے درکار ہیں اور ایک کریڈٹ گھنٹے کے لیے 16 گھنٹے مخصوص ہیں تو ریاضی کورس 5 کریڈٹ کا مانا جائے گا۔ مندرجہ ذیل جدول میں CBSE کے ذریعے استعمال میں لائے جا رہے گریڈنگ نظام کو پیش کیا گیا ہے:

جدول 5.43: CBSE کے ذریعے استعمال میں لایا جا رہا گریڈنگ نظام

نشانات کی وسعت (Range)	گریڈ (Grade)	گریڈ پوائنٹ (Grade Point)
91-100	A1	10.0
81-90	A2	9.0
71-80	B1	8.0
61-70	B2	7.0
51-60	C1	6.0
41-50	C2	5.0
33-40	D	4.0
30-32	E1	3.0
0-20	E2	2.0

گریڈ پوائنٹ اوسط (Grade Point Average-GPA) سال یا سیمیٹر کے ختم پر طلباء کے ذریعے ہر مضمون میں حاصل کیے گئے گریڈس کا اوسط ہے۔ اس کے لیے ہم مندرجہ ذیل ضابطہ کا استعمال کرتے ہیں:

$$GPA = \frac{\sum(CC * GPO)}{\sum CC}$$

جہاں GPA = گریڈ پوائنٹ اوسط، CC = کورس کریڈٹ اور GPO = حاصل شدہ گریڈ پوائنٹ

مثال: ایک طالب علم کے ذریعے سال کے ختم پر ہر مضمون میں حاصل کیے گئے گریڈس مندرجہ ذیل جدول میں مع کورس کریڈٹ کے دی

گئی ہے۔ اس طالب علم کا حاصل شدہ گریڈ پوائنٹ اوسط کی تحسب کیجیے، گریڈ پوائنٹ کے لیے جدول: 5.56565 کو تصور کریں:

جدول 5.44: طالب علم کے ذریعے سال کے ختم پر ہر مضمون میں حاصل شدہ گریڈس مع کورس کریڈٹ

مضمون	اردو	انگریزی	ریاضی	سائنس	سماجی علوم	کمپیوٹر
کورس کریڈٹ (CC)	4	2	4	4	4	2
حاصل شدہ گریڈس	A1	B1	A2	B1	C1	A1

حل: گریڈ پوائنٹ اوسط کی تحسیب کے لیے ہم مندرجہ ذیل ضابطہ کا استعمال کریں گے:

$$GPA = \frac{\Sigma(CC * GPO)}{\Sigma CC}$$

جہاں GPA = گریڈ پوائنٹ اوسط، CC = کورس کریڈٹ اور GPO = حاصل شدہ گریڈ پوائنٹ

جدول 5.45: طالب علم کے ذریعے سال کے ختم پر ہر مضمون میں حاصل شدہ گریڈس کی ضابطہ کے اعتبار سے جدول سازی

مضمون	کورس کریڈٹ (CC)	حاصل شدہ گریڈس	GPO	CC*GPO
اردو	4	A1	10	40
انگریزی	2	B1	8	16
ریاضی	4	A2	9	36
سائنس	4	B1	8	32
سماجی علوم	4	C1	6	24
کمپیوٹر	2	A1	10	20
	$\Sigma CC = 20$			$\Sigma(CC * GPO) = 168$

$$GPA = \frac{168}{20} = 8.4$$

اپنی معلومات کی جانچ (Check your progress)

1- ٹیسٹ ڈاٹا پر عمل آوری سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟

2- مفصل ڈاٹا کے مفہوم کو بیان کیجیے۔

3- مفصل ڈاٹا کے مفہوم کو بیان کیجیے۔

ڈاٹا کا تجزیہ کرنے کے بعد شماریاتی تکنیکوں اور حوالہ جاتی بنیاد پر حاصل شدہ نتائج کے بارے میں کیفیاتی بیان دینا ہی تشریح کہلاتی ہے۔ کسی بھی مفروضہ کو قبول یا رد کرنے کے لیے یہ بہت ہی ضروری ہے۔ معتبر اور معقول تشریح کرنے کے لیے درست شماریاتی تکنیکوں اور حوالہ جات کو منتخب کرنا اور استعمال کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ ان دونوں کو مندرجہ ذیل بیان کیا جا رہا ہے:

5.4.1 شماریاتی تکنیکوں کی بنیاد پر تشریح (Interpretation based on Statistical Measure)

مختلف شماریاتی تکنیکوں کو مناسبت کے ساتھ استعمال میں لا کر ہم دیے گئے ڈاٹا کے بارے میں مناسب تشریح کر سکتے ہیں۔ اس اکائی کے مندرجہ بالا حصوں میں آپ نے مختلف شماریاتی تکنیکوں کا استعمال کرنا سیکھا اور ساتھ ہی ساتھ ڈاٹا کے تجزیے کے بعد اخذ کیے گئے نتائج کی تشریح کرنے کو بھی آپ نے پڑھا اور سیکھا۔ مندرجہ ذیل مثالوں پر غور کیجیے:

- (1) : آٹھویں جماعت کے ایک طالب علم نے سماجی علوم میں 70 فیصد نشانات حاصل کیے۔
 - (2) : آٹھویں جماعت میں سماجی علوم میں طلباء کے ذریعے حاصل کردہ نشانات کا اوسط فیصد 75 ہے۔
 - (3) : ایک جماعت میں دو مضمونوں ریاضی اور سائنس میں طلباء کے ذریعے حاصل کردہ نشانات کے درمیان ارتباط کی شرح 0.76 پائی گئی۔
- مندرجہ بالا مثالوں میں ہم مشاہدہ کرتے ہیں تو اس میں تین طرح کی شماریات نظر آتی ہے۔ فیصد، اوسط اور شرح ارتباط۔ مثال نمبر 1 میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ طالب علم نے فرسٹ کلاس نمبر حاصل کیے ہیں کیوں کہ اس طلب علم نے فرسٹ کلاس کے لیے پہلے سے طے شدہ نشانات (60%) سے زیادہ نمبر حاصل کیا ہے۔ جبکہ مثال نمبر 2 سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ اس کلاس میں سماجی علوم میں طلباء کا اوسط حصول 75 فیصد ہے۔ جب ہم مثال نمبر 3 کے طالب علم کا حصول کلاس اوسط سے موازنہ کریں گے تو پائیں گے کہ اس طالب علم کو حصول اوسط سے کم ہے۔ اسی طرح مثال نمبر 3 سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ عام طور پر جن طلباء کا حصول ریاضی میں اچھا ہے ان کا حصول سائنس میں بھی اچھا ہے۔
- ان مثالوں میں کچھ شماریات کی بنیاد پر حصول کی تشریح کی گئی ہے، اسی طرح مخصوص شماریات کی بنیاد پر ہم کسی خصوصیات کے بارے میں کیفیاتی بیان دے سکتے ہیں۔ لیکن یہ بات قابل غور ہے کہ بغیر کسی حوالہ جات کے ہم مکمل اور قابل قبول تشریح نہیں کر سکتے ہیں۔

5.4.2 تشریح کے لیے حوالہ جاتی بنیاد (Frame of Reference for Interpretation)

جیسا کہ ہم نے مندرجہ بالا حصہ میں مشاہدہ کیا کہ تشریح کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ایک حوالہ جات (Reference) کا موجود ہونا ہے۔ بغیر حوالہ جات کے درست طریقہ سے تشریح کی ہی نہیں جاسکتی ہے۔ تشریح (Interpretation) کے لیے مندرجہ ذیل تین حوالہ جاتی بنیادوں (Frame of Reference) کا استعمال کیا جاتا ہے:

(a) نارم حوالہ جات (Norm Reference)

نارم ریفرنسڈ کا مطلب یہ ہے کہ اس پیمائش کا عمل کسی نارم (Norm)، گروپ یا کسی مخصوص کارکردگی کی پیمائش سے وابستہ اور متعلق ہے۔ یہ کسی خاص گروپ کی کارکردگی کے حوالے ٹیسٹ کے نتائج کو بتاتا ہے۔ یہ گروپ ”نارم (Norm) گروپ“ ہے کیونکہ فیصلے کرنے کے معاملے میں اس کی حیثیت نارم کے ریفرنسڈ (Referent) کی ہے۔ اس میں ٹیسٹ کے اسکورس کی نہ تو فرد کے حوالے تشریح ہوتی ہے نہ ہی فرد کی

کارکردگی کے معیار کے حوالے سے اور نہ ہی کامیابی کی کسی ایسی سطح کے حوالے سے جو پہلے سے طے شدہ طور پر قابل قبول ہو۔ یہ پیمائش کسی ایک کلاس یا کسی نارم (Norm) گروپ کے واسطے سے کی جاتی ہے کیونکہ اس کا کام انفرادی پیمائش (measurement) کو کسی نارم گروپ (کلاس) کے ساتھ جوڑنا ہے۔ اس کا مقصد جوابات کا اختلاف معلوم کرنا ہے یعنی یہ دیکھنا ہے کہ ایک فرد (Individual) کے جوابات اس گروپ کے جوابات سے کس حد تک مختلف ہیں جس سے وہ تعلق رکھتا ہے یا پھر جس سے وہ تعلق نہیں رکھتا۔

ہمارے تقریباً تمام کلاس روم ٹیسٹ، پبلک امتحانات اور معیاری ٹیسٹ نارم ریفرنسڈ ٹیسٹ (Norm-referenced test) ہی ہیں کیونکہ یہ سب کسی ایک کلاس کے نتائج ہی کی تشریح و تعبیر کرتے ہیں اور ان کے سب فیصلے (Judgements) کلاس کے حوالے سے ہی کیے جاتے ہیں۔ اسی کلاس کو ایک قسم (Type) کا نام بھی دے دیا جاتا ہے۔ کلاس کا سب سے ذہین لڑکا کون ہے؟ فرسٹ کون آیا؟ سب سے کم نمبر کس کے آئے؟ کیا کلاس میں وہ پانچ فیصد طلبہ سے بہتر ہے؟ یہ اور اسی قسم کے سوالات میں جو نارم ریفرنسڈ (Norm-Referenced) فیصلوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہم یکساں اطلاعات کے بارے میں کسی ایک طالب علم کی کارکردگی کا دوسروں کی کارکردگی سے موازنہ کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے سلیکشن کے سلسلہ میں جتنے فیصلے ہوتے ہیں وہ سب نارم ریفرنسڈ (Norm-Referenced) بنیاد پر ہی ہوتے ہیں۔ پیشین گوئیاں یا (Placement) کے فیصلے اسی قسم کی تجزیہ کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ نارم ریفرنسڈ تجزیہ کی بنیاد پر جو بڑے پیمانہ پر بھرتی ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ جن لوگوں کی پیمائش کی جا رہی ہے یا جو افراد کسی گروپ یا نارم (Norm) کو تشکیل دے رہے ہیں وہ سب ایک جیسے ہیں۔ جن حالات کے تحت ریفرنسڈ (Referent) یا Norm حاصل ہوا ہے اور جن حالات کے تحت اصل معلومات حاصل ہوئی ہیں ان کو بھی 'یکساں' (Similar) مانا جاتا ہے۔ ایک دوسرا معیار یہ بھی ہے کہ ان نارم ریفرنسڈ تجزیہ میں جو ریفرنسڈ (Referent) استعمال کیا جاتا ہے اس میں کم سے کم غلطی ہونا چاہیے تاکہ تجزیہ قابل اعتبار اور بالکل درست ہوں۔ جب تک استعمال کیا گیا ریفرنسڈ (Referent) بالکل تازہ ترین نہ ہوگا اس وقت فرد کی کارکردگی کا موازنہ کسی گروپ سے (جس کا ریفرنسڈ پرانا ہو) بیکار ہوگا اور غلط رہنمائی کرے گا اور نتائج کی غلط تشریح کرے گا۔ اس طرح نارم ریفرنسڈ پیمائش یکساں افراد کے ایک ایسے تازہ ترین اور لائق اعتبار ریفرنسڈ (نارم گروپ) کو مستلزم ہے جو ایک ہی جیسے حالات سے حاصل ہوا ہو۔

(b) کرائی ٹیرین حوالہ جات (Criterion Reference)

یہاں نارم ریفرنسڈ تشریح کے برخلاف کرائی ٹیرین ریفرنسڈ تشریح میں ایک طے شدہ کرائی ٹیرین (معیار) کے حوالے سے انفرادی کارکردگی کا موازنہ رنا ہوتا ہے۔ یہ پیمائش طے شدہ کرائی ٹیرین طرز عمل (Criterion behaviour) کے حوالے سے متعلم کے حیثیت کو طے کرتی ہے۔ یہ پیمائش ٹیسٹ کے رزلٹ کی ان طے شدہ اکتسابی نتائج (Learning Outcomes) کے اعتبار سے تشریح کرتی ہے جن کی حیثیت کرائی ٹیرین (Criterion) کی ہوتی ہے۔ کرائی ٹیرین ریفرنسڈ ٹیسٹ کی کامیابی کارکردگی کی طے شدہ سطحوں کے بیان میں پوشیدہ ہے۔ کامیابی کی ان سطحوں کو تدریسی مقاصد کا نام دیا جاسکتا ہے۔ متعلم کی تعلیمی کامیابیوں کے فیصلہ اور اس حوالے سے اس کی حیثیت کا تعین معلومات کے تسلسل کے پس منظر میں ہی کیا جاتا ہے۔ اس میں ہر تعلیمی مقصد کے حصول کے لیے حداقل قابل قبول کارکردگی کی معیاری سطح کی صراحت پیشگی طور پر کرائی ٹیرین ریفرنسڈ کے طور پر کی جاتی ہے۔

ابتدائی مرحلے میں جبکہ بنیادی مہارتوں اور بنیادی تصورات یا اکتساب کا زمانہ ہوتا ہے کرائی ٹیرین ریفرنسڈ پیمائش ضروری ہوتی ہے

تا کہ سیکنڈری مرحلے کی اکتساب کے لیے مناسب بنیاد پڑ سکے۔ اکتساب کی حد اقل سطح (Minimum level of Learning-MLL) اور اکتسابی مہارت (Mastery Learning-ML) کا تصور اسی خیال کی دین ہے۔

(c) خود حوالہ جات (Self Reference)

یہ یا تو نسبی (Relative) یا مطلق (Absolute) ہو سکتی ہیں۔ نارم ریفرینسڈ ٹیسٹ میں ہم فرد کی امتحان میں کارکردگی کو دوسروں کی کارکردگی کے تناظر میں تشریح کرتے ہیں جبکہ کرائی ٹیرین ٹیسٹ میں ہم فرد کی امتحان میں کارکردگی کی اسی چیز کے تعلق سے تشریح کرتے ہیں جس کی پیمائش مقصود ہے۔ جس چیز کی پیمائش (measurement) مقصود ہے وہ مہارتیں (Skills) بھی ہو سکتی ہیں معلومات (Knowledge) بھی ہو سکتی ہے اور طرز عمل (Behaviour) بھی تبھی حقیقی معنی میں نارم ریفرینسڈ ٹیسٹ کی نسبتی طور پر اور کرائی ٹیرین ریفرینسڈ ٹیسٹ کی مطلق طور پر تشریحات کی جاسکتی ہیں۔

ایک نارم ریفرینسڈ ٹیسٹ میں طالب علم کی کارکردگی کی نسبتی حیثیت توجہ کا مرکز ہوتی ہے لیکن ایک کرائی ٹیرین ریفرینسڈ ٹیسٹ میں فرد کی ٹیسٹ میں کارکردگی کی نوعیت ہی مطلق طور پر پرکھا اور جانچا جاتا ہے۔ جبکہ خود حوالہ جات (Self Reference) میں فرد کی خد سے موازنہ کیا جاتا ہے۔ اس کی دو شکلیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ وقت کے ساتھ اس فرد کی اکتسابی یا ماسٹری میں مثبت یا منفی تبدیلی واقع ہو رہی ہے کہ کوئی تبدیلی نہیں واقع ہوئی ہے۔ دوسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ کسی فرد کا ایک ہی وقت میں مختلف میدانوں میں کارکردگی کیا ہے۔

کرائی ٹیرین ریفرینسڈ ٹیسٹ کا استعمال کارکردگی کے طے شدہ دائرے میں فرد کی حیثیت کا پتہ لگانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ نارم ریفرینسڈ ٹیسٹ میں فرد کی کارکردگی ایک نارم گروپ کے تعلق سے دیکھی جاتی ہے جبکہ کرائی ٹیرین ریفرینسڈ ٹیسٹ میں فرد کی کارکردگی معیاری طرز عمل کے تسلیم شدہ مجموعہ کے حوالے سے طے کی جاتی ہے اور معیاری طرز کے اس تسلیم شدہ مجموعہ کو ہی احتساب (assessment) کا دائرہ کہا جاتا ہے۔ کرائی ٹیرین ٹیسٹ میں ایک یا ایک سے زیادہ دائروں کی جانچ ہو سکتی ہے۔ اکثر کرائی ٹیرین ریفرینسڈ ٹیسٹ جن سے اہل تعلیم کا پالا پڑتا ہے ان دائروں کے ان احتساب پر مبنی ہوتے ہیں جن تعلق کسی مہارت (Skill) یا علم (Knowledge) سے ہوتا ہے۔ نارم ریفرینسڈ ٹیسٹوں سے خاص طور پر بہت سی مہارتوں (جیسے پڑھ کر سمجھ لینے کی اہلیت (Reading comprehension)، جانکاری جیسے وفاقی نظام حکومت کے بارے میں واقفیت، یا فطری رجحانات جیسے مشکل مسائل کو حل کرنے کی لیاقت وغیرہ کی پیمائش کی جاتی ہے۔

استعمال (Application): اگر مارکنگ تاثراتی، ریٹنگ اسکیل (Rating scale) یا چیک لسٹ کا ہے تو رزلٹ طے کرنے کے طریقے کی کرائی ٹیرین ریفرینسنگ (Criterion referencing) کے طور پر درجہ بندی کی جاتی ہے اور اس طرح اگر امیدوار پہلے سے متعین معیار (criterion) کو پورا کرتا ہے تو وہ ٹیسٹ میں کامیاب کہلائے گا۔ رزلٹ طے کرنے کا یہ بظاہر ایک منطقی طریقہ ہے لیکن یہ قابل اعتماد اس وقت ہے جب معیار قابل اعتماد طور پر متعین ہوں تاکہ احتساب (assessment) کا اسٹینڈرڈ ہر سال ایک جیسا باقی رہے۔ کچھ عملی مہارتوں کے سلسلہ میں تو یہ آسان ہے کہ معیار قابل اعتماد طور پر متعین کر دیے جائیں مثال کے طور پر طالب علم دیئے ہوئے اسکور کو پانچ پانچ کے کلاس انٹروں کے ساتھ ایک مسلسل سیریز میں مرتب کرے اور پھر اوسط (mean)، وسطانیہ (Median) اور بہتاتیہ (Mode) نکالے اور سال بہ سال اس اسٹینڈرڈ کو برقرار رکھا جائے۔ بہر حال اگر معیار (Criterion) ممتحن حضرات کے ذہنوں میں ہوں تو یہ یقین دہانی بہت مشکل ہوگی کہ آیا وہ انہی

اسٹینڈرڈ کو ملحوظ رکھ رہے ہیں جو کہ دوسرے رکھ رہے ہیں۔ نیز یہ کہ جس طرح انہوں نے پچھلے امتحانوں میں کیا تھا اب بھی ایسا ہی کر رہے ہیں۔ یہ بات خاص طور پر مضمون نگاری سے متعلق سوالات اور زبانی امتحان کے ایسی میٹ میں زیادہ صادقی آتی ہے۔

تحریری امتحانات اور ٹیسٹوں میں عام طور پر کرائی ٹیرین ریفرنسنگ کا استعمال نہیں ہوتا۔ امتحان کے پرچے سے کورس کے مقاصد نمونے کے طور پر ہی جانچے جاتے ہیں اور ہو سکتا ہے کسی سال سوالات کا انتخاب زیادہ مشکل ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مقاصد کی جانچ زیادہ مشکل یا زیادہ آسان ہو یا پھر عبارت فہمی اور یادداشت سے متعلق سوالات کو زیادہ آسان یا زیادہ مشکل بنا دیا جائے۔ جب تک سوالات کی جانچ پرکھ نہ کی جائے اور اس کو اکھٹا نہ کیا جائے اور اس طرح مشکل ہونے کی سطح یکساں نہ رکھی جائے اور یہ امر یقینی نہ ہو جائے کہ مارکنگ مسلماً قابل اعتبار ہے اس وقت تک یہ کہنا ناممکن ہے کہ ٹیسٹ اسی اسٹینڈرڈ کا ہے جیسا کہ پہلے تھا۔ اس مسئلہ کا ایک حل تو یہ ہے کہ نارم ریفرنسنگ کے ذریعہ نتائج کو طے کیا جائے اور یہ مان لیا جائے کہ ہر سال امیدواروں کا اسٹینڈرڈ وہی ایک ہے اور یہ کہ دیے گئے مارکس کی سطح میں جو اختلافات ہیں وہ یا تو امتحانی پرچوں کی بنا پر ہیں یا ان کی مارکنگ کی بنا پر ہیں۔ ہر سال کامیاب ہونے والے امیدواروں کی فیصدی تعداد وہی رہتی ہے۔ یہ طریقہ قومی سطح کے بڑے پیمانے پر صحیح ہے لیکن کالج یا چھوٹے گروپوں کے امتحانات کے سلسلہ میں (مثال کے طور پر جہاں گروپ کی تعداد چند سو سے بھی کم ہو الا یہ کہ اس بات کے یقین کرنے کے لیے معقول دلائل ہوں کہ اسٹینڈرڈ میں تبدیلی نہیں آئیگی) اس کے استعمال پر سوالیہ نشان لگ جاتے ہیں یہ عملاً نامنصفانہ ہے کیونکہ کامیاب ہونے والے امیدواروں کی فیصدی تعداد وہی رہتی ہے چاہے مجموعی طور پر اسٹینڈرڈ زیادہ ہو یا کم۔

اپنی معلومات کی جانچ کیجیے (Check your progress)

1- رائیٹیرین حوالا جات کو واضح کیجیے۔

5.5 بازرسی (Feedback)

بازرسی کسی بھی نظام کو اندرونی طور پر درست کرنے و قابو میں رکھنے کا عمل ہے۔ فوری بازرسی کسی بھی فرد کی کارکردگی اور برتاؤ کو مزید بہتر بنانے کے لیے اس کے بارے میں رائے و معلومات فراہم کرتی ہے۔ تدریسی و اکتسابی عمل میں معلمین شعوری اور نیم شعوری طور طلباء کی کارکردگیوں پر پیشہ وارانہ اندازے لگاتے ہیں اور طلباء کی اکتسابی جانچ/تشخیص کے لیے انھیں پیشہ وارانہ اندازوں کا استعمال کرتے ہوئے طلباء کے معیار پر فوری بازرسی کرتے ہیں۔ طلباء کی مسلسل ترقی کے ذریعے ہی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اکتسابی حکمت عملی کس حد تک کامیاب ہوئی ہے۔ معلم کسی بھی طلباء کی ترقی کی تشخیص میں بازرسی کرتے ہیں جو اکتسابی تشخیص کی ایک اہم خصوصیت ہے۔ کسی بھی قسم کی بازرسی دو پہلوؤں پر منحصر ہوتی ہے۔ ایک بازرسی کا معیار اور دوسرے کہ طلباء اس بازرسی کو کس طرح قبول کرتے ہیں اور اس کا استعمال کیسے کرتے ہیں۔

اس لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ تمام معلمین کو بہترین تشخیص کی تربیت دی جائے تاکہ وہ طلباء کی معیاری بازرسی کر سکیں۔ اور طلباء کو یہ سکھائے کہ وہ معلم کی، کئی گئی بازرسی کو مثبت انداز میں قبول کرے اور اپنی کارکردگی کی موثر انداز میں اصلاح کرے۔ اکتسابی تشخیص اور معیاری بازرسی طلباء کی ترقی کا ایک اہم ذریعہ ہے موثر تشخیص اور اکتسابی حکمت عملی کے بغیر کسی بھی طلباء کی معیاری بازرسی ممکن ہی نہیں ہے جس کی وجہ سے ذاتی

اكتسابی تصور کو ہم کبھی بھی پروان نہیں چڑھائیں گے۔

بازرسی کے اقسام (Types of feedback)

تدریسی و اکتسابی عمل میں طلباء کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں اور اپنی کارکردگی کے ذریعے اُس کے نتائج ظاہر کرتے ہیں۔ مختلف قسم کی بازرسی طلباء کی کارکردگی پر اثر انداز ہوتی ہے۔ جیسے کہ مثبت بازرسی (Positive feedback) کے ذریعے طلباء کی اکتسابی حکمت عملیوں میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ زیادہ سے زیادہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کو اثباتی یا تصدیقی (Affirmation) بازرسی بھی کہا جاسکتا ہے۔ طلباء کی کارکردگی یا سرگرمی کا مشاہدہ کرنے کے فوراً بعد طلباء کی مثبت بازرسی کرنا ہی اثباتی یا تصدیقی بازرسی کہلاتا ہے۔ جیسے آپ نے بہت اچھا کیا (well done) وغیرہ۔ اسی طرح منفی (Negative) بازرسی تدریسی و اکتسابی عمل یا سرگرمیوں کے دوران کی گئی طلباء کی غلطیوں پر تنقید کرنا ہے۔ ترقیاتی (Developmental) بازرسی کا استعمال طلباء کی مستقبل کی کارکردگی کی اصلاح کے لیے کیا جاتا ہے۔ جیسے آپ اگلی مرتبہ دراز کاغذ کا استعمال کریں گے اور ٹیپ (Tape) کے بجائے گوند کا استعمال کر کے ڈرائنگ بورڈ کو محفوظ رکھیں گے وغیرہ۔

اچھے و موثر بازرسی کی خصوصیات (Characteristics of good & effective feedback)

بازرسی زیادہ تر برتاؤ کے نتیجہ پر مرکوز ہوتی ہے۔ یہ فطری جبلت پر انحصار نہیں کرتی بلکہ مثبت ہونے کی وجہ سے کسی فرد کو آگے بڑھنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ ایک اچھے و موثر بازرسی میں مندرجہ ذیل خصوصیات ہونی چاہیے:

- (1) جو آسان و سہل زبان میں تحریر کی جائے اور وضاحت سے بیان کی جائے۔
- (2) جو موقع کی مناسبت سے کی جانی چاہیے۔
- (3) اچھی بازرسی معلومات فراہم کرتی ہے۔
- (4) جس کی قدر پیمائش کی جاسکے۔
- (5) خود کا جائزہ لینے کے لیے ہمت افزائی کرتی ہے اور اس کی مدد سے خود کی خوبیوں اور خامیوں سے واقفیت ہوتی ہے۔
- (6) بازرسی تعمیر ہونی چاہیے۔ ایک تعمیری بازرسی طلباء میں ہمت افزائی پیدا کرتی ہے تاکہ وہ جماعت کی سرگرمیوں میں حصہ لیں۔
- (7) بازرسی طلباء کو بہتر رہنمائی فراہم کرتی ہے تاکہ وہ یہ جان سکیں کہ کس طرح کارکردگی کو مزید بہتر بنایا جائے۔
- (8) بازرسی ہمیشہ مثبت نکات سے دینا شروع کرنا چاہیے اور ہمیشہ مثبت انداز میں ختم کرنا چاہیے۔
- (9) جو کارکردگی طلباء انجام دے چکے ہیں اس میں بازرسی کے ذریعے مزید بہتری لائی جاسکتی ہے۔
- (10) بازرسی طلباء کی کارکردگی یا اسائنمنٹ یا کسی اکائی کی قدر پیمائش سے منسلک ہونی چاہیے۔

طلباء کے لیے موثر بازرسی کے فوائد (Benefits of effective feedback to learners)

کسی اساتذہ کی طالب علم کے بارے میں بازرسی اس کے فن میں بنیادی اضافہ اور معلومات میں بہتری لانے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ بازرسی ہمیشہ وقتاً فوقتاً کی جانی چاہیے تاکہ کامیابی کے امکانات مزید روشن ہو اور اس کے ذریعے طلباء کی کارکردگی میں مزید بہتری لائی جاسکے یا مزید واضح انداز میں پرکھا جاسکے۔ اچھی بازرسی کے بہت سے فوائد ہیں جو حسب ذیل ہیں:

- (1) ترقی (Progress): ترقی اسی وقت ممکن ہو سکتی ہے جب طالب علم یہ جان لے کہ اس کی کارکردگی میں کہاں کہاں مزید بہتری کی

ضرورت ہے اور کس طرح صلاحیتوں کو بروئے کار لاکر فراہم کردہ وقت میں کارکردگی کو بہتر سے بہتر انداز میں پیش کیا جائے۔ یہ موثر بازاری سے ہی ممکن ہو سکتا ہے۔

(2) کامیابی (Achievement): کسی بھی تدریسی و اکتسابی عمل میں جیسے جیسے ترقی حاصل ہونا شروع ہوتی ہے تو مزید کامیابی کے مواقع ملنے کی شرح بھی بڑھتی ہے۔

(3) طلباء کی خود اعتمادی (Learner's confidence): موثر رائے کسی بھی فرد کے خوبیوں سے واقف کروانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے اور اس طرح مزید ترقی کی گنجائش پیدا ہوتی ہے جو فرد کی خود اعتمادی میں اضافہ کا باعث بنتی ہے۔

(4) بازاری اگر موثر اور بہتر انداز میں دی جائے تو مزید تحریک کا ذریعہ بنتی ہے جس کے سبب طلباء کو تدریس کے دوران پورے وقت تک روکے رکھنا زیادہ آسان ہوتا ہے۔

(5) حافظہ (Retention): دی جانے والی بازاری کو طلباء اگر قبول کرے تو مزید ترقی اور بہتری کی گنجائش بڑھ جاتی ہے اور یاد کرنا یا یاد رکھنا زیادہ مسئلہ کا باعث نہیں ہوتا۔

(6) طلباء کا جماعت میں برتاؤ (Behaviour in classroom): طلباء کے برتاؤ کو منظم کرنے کا بہترین طریقہ ایک موثر بازاری ہے جو کہ طلباء کی ترقی کا باعث ہے۔

(7) معلم اور طلباء کے تعلقات (Learner-teacher relations): بازاری اگر موثر ہو تو طلباء بھی استاد کی قدر کرتے ہیں اور استاد کی محنت جدوجہد کو سراہتے ہیں جس کی بناء پر ایک استاد اور طالب علم کے درمیان اچھے تعلقات پروان چڑھتے ہیں۔

5.5.1 بازاری تشکیلی اسیسمینٹ کا ایک اہم جز

(Feedback as an essential component of formative assessment)

کوئی استاد اپنے طالب علم کے بارے میں پیشہ وارانہ فیصلہ اس کے تدریسی و اکتسابی عمل کی کارکردگی کی بنیاد پر کرتا ہے جو کبھی ارادی اور غیر ارادی فیصلہ ہوتا ہے۔ پیشہ وارانہ فیصلہ کو رائے میں تبدیل کر کے کسی طالب علم کی خوبیوں و صلاحیتوں پر مرکوز نظر ہونا ہی دراصل قدر پیمائش کہلاتا ہے۔ پیمائش کی اہم خصوصیات رائے شماری ہے جو کسی استاد کی جانب سے طلباء کو ان کی ترقی کی بنیاد پر فراہم کی جاتی ہے لیکن اس کے لیے استاد کو تربیت (Training) نیز حمایت درکار ہوتی ہے تاکہ وہ صحیح قدر پیمائش فیصلے لے سکیں؛ بہتر بازاری فراہم کر سکیں اور طلباء کو اس بات کے لیے تیار کرنا کہ وہ بازاری کو مثبت انداز میں لیں اور اس کو بروئے کار لانے کی صلاحیت پیدا کرنا تاکہ ان کے کارکردگی کو بہتر کیا جاسکے۔

اکتساب کے لیے احتساب اور ایک اچھی بازاری کسی بھی طالب علم کی مسلسل ترقی کا سبب بنتی ہے لیکن اس کے باوجود اور ڈنگ باڈی کی ضرورتوں کے مد نظر سالوں سے اکتساب کے اسیسمینٹ کا تصور تعلیم داں و پیشہ ور معلمین کے ذہن نشیں ہو چکا ہے۔ اکتساب کا اسیسمینٹ نہ صرف کمرہ جمات میں کی جانے والی موثر سرگرمیوں کی راہ میں روکاؤ بنتا ہے بلکہ طلباء کی کارکردگی پر لیے گئے احتساب کے فیصلے پر بازاری سے بھی روکتا ہے تاکہ ان کی اپنی کارکردگی بہتر ہو سکے۔ طلباء کو احتساب کے عمل آوری کے مرکز پر رکھتے ہوئے اور مقاصد کو دوبارہ مرکوز کرتے ہوئے تاکہ طلباء اولین فائدہ حاصل کرنے والوں میں ہوں تو ہی معلم کے صحیح معنی اور طلباء صحیح قدر حاصل کر سکتے ہیں۔

اس طرح اکتسابی سرگرمیوں کے موثر اسیسمینٹ کے بغیر جو کہ ہر تدریس و اکتساب میں شامل طلباء کی اونچی سطح کی معیاری بازاری پر مبنی ہوتی

ہے، ذاتی اکتسابی تصور کا مشن کبھی بھی پروان نہیں چڑھ سکتا ہے۔ ملی بیڈ (Miliband) کے مطابق ذاتی اکتساب طلباء کے لیے بہت ہی اعلیٰ تصور ہے جس میں طلباء کی اپنی ذاتی ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں علم اور تفہیم کی بنیاد پر معیاری تدریس مہیا کی جاتی ہے۔ یہ انفرادی اکتساب سے مختلف ہے جہاں طالب علم کو اکیلا کسی مشین کے ساتھ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مختلف طلباء کے سکھنے کے طریقہ کار کے اعتبار سے ان کی تدریس کو شکل دینا اور ہر طالب علم کی منفرد صلاحیتوں کی پرورش کرنا۔ طلباء کی اکتسابی ترقی کے لیے احتساب کرہ جماعت کی سرگرمیوں کا بنیادی عمل ہے۔ اکتساب کے پہلے طلباء کو کچھ باتوں کا جاننا اور سمجھنا ضروری ہے جیسے کہ اکتساب کے مقاصد کیا ہیں؟ طلباء کو یہ سیکھنے کی ضرورت کیوں ہے؟ طلباء کو اپنے مقاصد کہاں سے حاصل کرنا ہے؟ طلباء اپنے مقاصد کو کس طرح حاصل کر سکتے ہیں؟ جب طلباء مندرجہ بالا باتوں کو سمجھ جائیں گے تب ہی معیاری اکتساب ممکن ہو سکے گا۔ بازرسی کے ذریعے طلباء کو ان تمام باتوں سے واقف کروانا معلم کی ذمہ داری ہوتی ہے اور اسی طرح معلم اور طلباء کے درمیان تعامل کے ذریعے ہی اکتسابی مقاصد کو حاصل کیا جاسکتا ہے۔ طلباء کا بڑھتا ہوا اعتماد ان کے کام میں تحریک لاتا ہے اور ان کی خود اعتمادی کی عکاسی کرتا ہے۔ موثر اسسمنٹ کے لیے معلم کو مندرجہ ذیل باتوں کو دھیان میں رکھنا ضروری ہے:

- (1) طلباء کو اکتسابی مقاصد سے آگاہ کرنا اور وہ ان کے مقاصد کو کتنا سمجھ پائیں اس کی جانچ کرنا۔
- (2) طلباء کے سامنے ایک معیار کا مظاہرہ کرنا اور اس معیار کی پہچان اور اس کے حصول میں طلباء کی مدد کرنا۔
- (3) طلباء کو اس بات کا احساس دلانا کہ معلم کو طلباء سے بہت زیادہ امیدیں وابستہ ہیں تاکہ طلباء اپنی ماضی کی کارکردگیوں میں اصلاح کر سکیں۔
- (4) تمام معلمین اور طلباء کو مسلسل سہولتیں فراہم کی جائیں تاکہ وہ اپنی کارکردگیوں پر نظر ثانی کریں اور ان میں اصلاح کریں۔
- (5) معلم کو چاہیے کہ وہ طلباء کے اسسمنٹ شعور کی نشوونما کرے تاکہ طلباء یہ بات آسانی سے پہچانے و سمجھ سکے کہ انہیں اپنی کارکردگیوں میں کس طرح سے یا کون چیزوں میں اصلاح کی ضرورت ہے۔

اختساب کے فیصلوں پر موثر بازرسی طلباء کی مزید بہتری کے مواقع فراہم کرتی ہے جو اکتساب کے لیے احتساب (Assessment for learning) کی بنیاد ثابت ہوتی ہے۔

5.5.2 بازرسی کا استعمال (Use of Feedback)

(a) تعلیمی فیصلے لینے کے لیے بازرسی کا استعمال (Use of Feedback for Taking Pedagogical Decisions)

- (1) بازرسی کی مدد سے ہم موثر تدریس کر سکتے ہیں، یہ طلباء کو بولنے کی مکمل آزادی فراہم کرتا ہے تاکہ طلباء مدرسے سے منسلک اہم نکات میں اپنی رائے دے سکیں اور درس و تدریس کو مزید بہتر بنا سکیں۔ اس میں تدریس و اکتساب کی بات شامل کی جاسکتی ہے، اس میں تعلیم اور اکتساب کے بارے میں نئی پہل یا اقدامات کے بارے میں طلباء کی رائے شامل ہو سکتی ہے، طلباء کی جانب سے ایسے تبصروں کا حاصل کرنا جو کہ طلباء کے سیکھنے کے متعلق یا معلم کے درس سے متعلق ہو، ایسے تشکیلی تبصروں کو بھی طلباء کی جانب سے حاصل کیا جاسکتا ہے جو کمرہ جماعت سے متعلق جدید پالیسی یا چلن میں ہو۔ یہ تمام تدریس و اکتساب کو بہتر بنانے میں معاون و مددگار ثابت ہوتا ہے۔
- (2) موثر درس و تدریس کا انحصار تین باتوں پر ہے۔ برتاؤ پر یعنی استاد کمرہ جماعت میں کیا کرتے ہیں، معلومات یعنی معلم کیا جانتا ہے اور یقین یعنی معلم کیوں کوئی کارکردگی کو سرانجام دیتا ہے۔ ان سب پر بازرسی کے ذریعے نظر ثانی کی جاسکتی ہے اور ان کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے۔

- (3) مختصر مدتی مقاصد اور طویل مدتی مقاصد کے بارے میں وسیع سوچ موثر طریقہ تدریس کا ایک اہم حصہ ہے اور یہ بازاری کے ذریعہ بخوبی حاصل کیا جاسکتا ہے۔
- (4) بازاری کا استعمال اُن موثر طریقوں کی مدد کرتا ہے جو کہ طلباء کے سابقہ اکتساب اور تجربات پر پروان چڑھتے ہیں اور وہ اُن کے سیکھنے کے پیٹرن کو بھی اچھا کرتا ہے۔
- (5) بازاری کا استعمال اُن موثر تعلیمی فیصلوں کو لازمی طور پر ضرور مدد کرتا ہے جو کہ مختلف ٹیکنیکس پر مشتمل ہوتی ہے اور جس میں منظم مکمل کمرہ جماعت کی سرگرمی، گروپ کی سرگرمی، گائیڈڈ اکتساب اور انفرادی سرگرمیاں بھی شامل ہے۔
- (6) اس طرح بازاری کا استعمال اُن موثر تعلیمی فیصلہ لینے میں لازمی طور پر مدد کرتا ہے جو کہ اعلیٰ سطح کی سوچ اور میٹا کونیشن (metacognition) کو پروان چڑھانے پر مرکوز ہوتی ہیں۔ یہ ان باتوں کو عمل میں لانے کے لیے بحث و مباحثہ اور سوالات کا صحیح استعمال کرنے میں بھی مدد کرتی ہے۔
- (7) بازاری کا استعمال اُن موثر طریقوں کو آسانی فراہم کرتا ہے جو اکتساب کے لیے Assessment کو محیط ہے۔
- (8) موثر تدریس طلباء اور سیکھنے والوں کی مختلف ضروریات کو شامل کرتا ہے جس کی پہچان موثر بازاری کے ذریعے ہی ممکن ہے۔

(b) مزید اکتساب کے لیے بازاری کا استعمال (Use of feedback for further learning)

- تعلیمی عمل میں بازاری کی بہت اہمیت ہے۔ اس کے لیے طلباء کو صحیح رہنمائی فراہم کرنا ضروری ہے تاکہ وہ بازاری کا استعمال کر کے اپنی کارکردگی میں بہتری لاسکیں اور اکتسابی عمل کو مزید بہتر بنا سکیں۔ مندرجہ ذیل نکات اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ بازاری کا صحیح استعمال کسی بھی تعلیمی عمل میں مزید اکتساب کو فروغ دے سکتا ہے اور اسکو بہتر بنا سکتا ہے:
- (1) طلباء کو ان کی ترقی سے واقف کروا کر مزید بہتر کارکردگی کے لیے متحرک کرنا: استاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ طالب علم کے لیے مختلف تعلیمی مواقع فراہم کرے تاکہ طلباء خود کی صلاحیتوں کے مطابق بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرے۔ وقفہ وقفہ سے بازاری کی جانے والی بازاری کی مدد سے طلباء تحریک حاصل کرتے ہیں اور اپنی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کر کے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ بازاری کی فطری انفرادیت اس بات کی سہولت فراہم کرتی ہے کہ ان طلبہ کو جو عام طور پر کمزور ہیں ان کو بھی ترقی کے متوازی مواقع دیے جاسکیں۔
- (2) کمرہ جماعت کی سرگرمیوں میں بہتری لانا: کمرہ جماعت میں کی جانے والی مختلف سرگرمیاں عام طور پر اسسمینٹ سرگرمیاں ہوتی ہیں، جسمیں استاد مختلف تفویضات اور سوالات کو طلباء کے روبرو پیش کرتا ہے اور طلباء ان تفویضات اور سوالات کا جواب اور رد عمل پیش کرتے ہیں۔ استاد طلبہ کی حاصل کردہ علم، تفہیم و مہارتوں کی بنیاد پر، جو کہ ان کے جواب و رد عمل میں پوشیدہ ہوتا ہے، ان کا اسسمینٹ کرتے ہیں اور بازاری کے ذریعے طلباء کو ان کی خوبیوں و خامیوں سے واقف کروا کر تعلیمی عمل کو بہتر بناتے ہیں۔
- (3) اکتسابی عمل کی موثر منصوبہ بندی: اکتسابی عمل اچانک رونما ہونے والا واقعہ نہیں ہوتا بلکہ اس کی بہت دھیان سے منصوبہ بندی کی جاتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ استاد ان سرگرمیوں کی منصوبہ بندی کرتے وقت بہت احتیاط برتتے تاکہ طلباء کو مختلف مواقع فراہم ہونے کے

ساتھ ساتھ ان کی ترقی کے امکانات بھی روشن ہو۔ اور ساتھ ہی تکمیل ممکن ہو سکے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ استاد طلبہ کو تعلیمی مقاصد کو بھی بہتر انداز میں واضح کرے اور اس بات کی جانچ کرے کہ طلبہ نے نہ صرف تعلیمی مقاصد کو اچھی طرح سمجھ لیا ہے بلکہ وہ اس سمینٹ کی مختلف بنیادوں سے بھی اچھی طرح واقف ہیں۔ استاد کے لیے ضروری ہے کہ طلبہ کے لیے ایسے مواقع فراہم کرے اور ان کی منصوبہ بندی کرے تاکہ طلبہ احتساب کے نتائج پر کی گئی بازری کو اچھی طرح استعمال کر سکیں اور آگے کی ترقی و اکتساب کے بارے میں فیصلے لیں سکے۔

(4) تعلیمی مقاصد کے تعین میں مدد: کسی بھی تعلیمی سال کے شروعات میں استاد کے لیے یہ بہتر ہے کہ وہ سب سے پہلے تدریس نصاب کی منصوبہ بندی کر لے۔ ہر تعلیمی دورانیہ کے مقاصد کی نشاندہی و واقفیت کے بعد ہی آگے کی ترقی اور تدریس ممکن ہو پاتی ہے جو بازری کے روشنی میں ہی ممکن ہے۔

(5) اکتسابی مقاصد کی اشتراکیت میں مدد: طالب علم کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ تعلیمی مقاصد کو اچھی طرح سمجھے اور حاصل کرے۔ دوران تدریس استاد بھی وقفہ وقفہ سے اس بات کی جانچ کرتا ہے کہ کیا پڑھانا ہے؟ اس مواد سے طلباء کیا سیکھیں گے؟ اور کیوں پڑھانا ضروری ہے؟ طلبہ کے اکتسابی نتائج کے بارے میں بازری اس اچھی کارکردگی کے ذیل میں جو طلبہ کو ظاہر کرنی ہے ان کو مزید اکتساب کے لیے متحرک کرتی ہے۔ اس کے لیے دوطرفہ ترسیل ضروری ہے تاکہ طلباء کی تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لاکر بہتر تدریس کی جاسکے اور تعلیمی مقاصد حاصل کیے جائیں۔

(6) اس سمینٹ معیار سے رابطہ کرنے میں مدد: بازری کے ذریعے طلباء کی جانچ کے صحیح پیمانوں کے متعلق وضاحت کی جاسکتی ہے تاکہ طلباء اسے سمجھ کر صحیح اکتساب کر سکیں تاکہ مقاصد کی تکمیل ہو۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب استاد صحیح طریقہ سے طلباء کی بازری کرے اور مقاصد اور جانچ کے پیمانوں کے متعلق سمجھائے۔ اسی جانچ کے ذریعے طلباء میں خود احتسابی کی عادت بھی پروان چڑھانا چاہیے۔

5.5.3 استاد اور ہم جماعت طلباء کے ذریعے بازری (Teachers' and Peer Feedback)

استاد کے ذریعے بازری (Teachers' feedback) - زبانی و تحریری (Oral & written)

زبانی بازری (Oral feedback)

طالب علم عام طور پر روزانہ اپنے استاد سے زبانی بازری لیتا رہتا ہے جو کبھی سوچ سمجھ کر یا کبھی یونہی دیا جاتا ہے جو اکثر کسی کام کی نوعیت کے مطابق ہوتا ہے۔ کمرہ جماعت میں کم ہی غیر روایتی بحث و مباحثہ ہوتا ہے جو کہ استاد کی بازری پر مبنی ہوتی ہے۔ لیکن ان کی بدولت طلباء بہتر رائے حاصل کر لیتے ہیں جو کبھی کسی بہتری کی جانب اشارہ ہوتا ہے یا کبھی کارکردگی کے تعلق سے متحرک کرنا ہوتا ہے یا کبھی کسی پیشورانہ ماہر تعلیم کے ذریعے مہارت کے بارے میں چند مشورے دینا ہوتا ہے جو طلباء کی کارکردگی کی بنیاد پر دیے جاتے ہیں۔ زبانی بازری عام طور پر اس اعتبار سے تحریری بازری پر فوقیت رکھتی ہے کہ یہ کسی کام کو دیکھتے ہوئے اسی وقت اس کے تعلق سے آسانی سے کم وقت میں اور فوری دی جاتی ہے۔ جماعت میں روزمرہ کی تدریس کے دوران ہی رائے دی جائے تو اس کا اثر زیادہ ہوگا۔ بجائے اس کے کہ سال کی اختتام تک اُسے روک کر رائے دی جائے تو اس کی اہمیت اتنی نہیں رہ جاتی ہے۔ ایک اچھی بازری کے لیے استاد کو چاہیے کہ مندرجہ ذیل باتوں کو ذہن میں رکھے:

- (1) طلباء کو ہر سبق کے ساتھ رائے سے نوازے جو کہ موثر تدریس کا ایک اہم حصہ ہے۔ اس کے علاوہ رائے گروپ یا انفرادی طور پر بھی دی جاسکتی ہے۔
- (2) سیشن کے تعارفی کلمات میں بازرسی کے مواقع کو اجاگر کرتے ہوئے سبق کے خاکے متعلق طلباء کو واقف کروانا۔
- (3) طلباء کو زبانی بازرسی کو اپنی بیاضوں میں تحریر کرنے کی تلقین کرنا۔
- (4) اس بات کے مواقع فراہم کرنا کہ دوران سبق دی جانے والی رائے کو طلباء سمجھیں و دوران سبق اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔
- (5) طلباء کو اس بات کے لیے متحرک کرنا کہ وہ کی گئی بازرسی و رائے کے مطابق منصوبہ سازی کریں اور اس پر عمل کرنے کے لیے عملی پروگرام کو تشکیل دیں۔
- (6) یہ کوشش کی جائے کہ طلباء کو ان کی کسی بھی سرگرمی کے تعلق سے ان کی اپنی کارکردگی کے بارے میں ضرور آگاہی ہو سکے۔
- (7) استاد کو چاہیے کہ طلباء اس بات کا مظاہرہ کرے کہ وہ خود کی پچھلے کارکردگی سے موازنہ کر کے حالیہ کی کارکردگی میں بہتری لاسکتے ہیں۔ نہ کہ وہ صرف دوسرے طلباء سے اس کا موازنہ کرے اور اس سے بہتر بننے کی کوشش کریں۔

تحریری بازرسی (written feedback)

- استاد طلباء کو تحریری طور پر ایسی باتیں نہ بتائے جو وہ انہیں زبانی نہیں بول سکتے ہیں۔ تحریری طور پر وہ ایسی باتیں لکھے جو طلباء کی کارکردگی میں بہتری کا باعث بنے نہ کہ ان طلباء کی شخصیت سازی میں خلاء کا موجب بنے۔ بازرسی کے لیے تحریری نکات تربیت دیتے وقت یہ ذہن نشین رکھے کہ یہ مواد ادارے کے دوسرے لوگ و اساتذہ بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اساتذہ درجہ ذیل باتوں کو ذہن نشین رکھے:
- ایسی بازرسی تحریر کرے جو معیاری ہو اور ادارے کے اصولوں کے تحت ہو۔
 - طلباء کو تحریری بازرسی کے جواب کے لیے مناسب وقت فراہم کرے۔
 - کوشش کرے کہ بازرسی تحریر کرتے وقت غیر جانبدارانہ رویہ ہو۔
 - تحریر باآسانی سے پڑھی جاسکے اور ترتیب میں ہو۔
 - بہتر کارکردگی کے تعلق سے نکات شامل کریں جو آپ نے قدر پیمائش میں لکھے۔
 - ایسے علاقے جہاں طلباء نے کارکردگی بہتر کی ہو اس کی وضاحت کریں اور آگے مزید بہتری کے لیے مشوروں سے نوازے۔

ہم مرتبہ طلباء سے بازرسی (Peer Feedback)

کچھ عرصہ پہلے استاد کی جانب سے دی جانے والی صلاح / رائے طلباء کے لیے کسی تحفہ سے کم نہیں ہوتی تھی اور طلباء غیر فعال (passive listeners) کے زمرے میں شامل ہوا کرتے تھے لیکن بدلتے تعلیمی رجحانات نے طلباء کو مرکزی حیثیت و اختیار فراہم کیا ہے جس کی بدولت اب رائے میں بھی طلباء فعال حصہ داری یا راست حصہ داری پیش کرتے نظر آتے ہیں۔ جو ان کے اکتسابی عمل کو جلا بخشتا ہے۔ طلباء کی جانب سے دوسرے طالب علم کے بارے میں رائے آج کے تعلیمی دور میں اہم گردانی جا رہی ہے۔ اس کے ذریعے طلباء کو مزید ایک دوسرے سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ طالب علم کو ہم جماعت طلباء کی جانب سے دی گئی بازرسی peer feedback کہلاتی ہے۔ یہ کسی کارکردگی میں سدھار لانے کے متعلق

مشورے، رائے اور تراکیب پر مشتمل ہوتی ہے جو طلباء ایک دوسرے کو دیتے ہیں۔ اس طریقے سے طلباء کی مشاہدہ کرنے کی و صحیح تجزیہ کرنے کی صلاحیت پر وان چڑھتی ہے اور ساتھی طلباء کی رائے کا احترام کرنا اور اُسے دلچسپی کے ساتھ قبول کرنے کا حوصلہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ طلباء کی جانب سے دی جانے والی رائے و مشورہ کی بنیاد پر ہر طالب علم اپنے اس مضمون میں مزید بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتا ہے ساتھ ہی خود کی اکتسابی نظم و ضبط پر توجہ مرکوز کر کے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتا ہے۔ کبھی کبھی استاد کے جانب سے دی جانے والی رائے سے زیادہ مناسب و بہتر رائے طلباء کی جانب سے مل جاتی ہے اور منفی نکات کے اظہار پر طلب علم میں تشویش (anxiety) کا سبب نہیں بنتا۔ مندرجہ ذیل انداز میں طلباء کی رائے شناری کی وضاحت ہو جاتی ہے:

- طلباء اپنے ساتھی جماعت کے طالب علم کے بارے میں کسی تفویضات یا پروجیکٹ کے بارے میں تشکیلی مشورے و تجاویز دے سکتے ہیں تاکہ اس کی کارکردگی میں مزید بہتری لائی جاسکے۔
 - کسی تحریری مواد یا اس کی پیش کش کے طریقے کار پر طلباء اپنی رائے و تبصرے دے سکتے ہیں۔
 - اس کے علاوہ طلباء استاد کے جانب سے دیے گئے تحریری مشوروں کے بارے میں بھی ساتھی طلباء سے بحث (discuss) کر سکتے ہیں کہ تحریری مشوروں پر عمل کیوں ضروری ہے اور ان پر کس طرح عمل کیا جائے۔
 - پوسٹر بنانا یا سلوگن (slogan) لکھنا یا دیگر سرگرمیوں میں اسسٹمنٹ کے کیا کیا معیارات ہو سکتے ہیں، اس پر بھی طلباء آپس میں ایک دوسرے کی رائے لے سکتے ہیں۔
- اس طرح طلباء کے مشورے یا بازسی ایک دوسرے کے لیے کافی اہمیت رکھتی ہے اور ان کا استعمال کر کے تعلیمی عمل کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے اگر ہر طلباء کو اس کی ذمہ داری دی جائے کہ اس کو دوسرے طلباء کے بارے میں بازسی کرنی ہے اور طلباء بازسی کے بنیادی اصولوں سے واقف ہیں اور تعمیری بازسی میں حصہ لے سکتے ہیں۔

5.5.4 بازسی میں نشانات، گریڈس اور کیفیاتی بیان کا مقام

(Place of Mark Grades & Qualitative Description in Feedback)

یہ موجودہ زمانے کی حقیقت ہے کہ ہم طلباء کو ان کی صلاحیتوں اور کارکردگی کی مناسبت سے کسی گروپ میں ترتیب دیتے ہیں اور انھیں نشانات (Marks) دیتے ہیں۔ ایک تعلیم یافتہ دیکھ بھال کر نیوالے اور معاون استاد ہونے کے ناطے ایک معلم کی توجہ میں سب سے آگے طلباء کے بہترین مفاد ہوتے ہیں لیکن طلباء کی کارکردگی کی مناسبت سے ہی انھیں مارکس یا گریڈس یا کیفیاتی تفصیل دینا پڑتا ہے جس کا طلباء کے آنے والے تعلیمی حالات اور دلچسپی رکھنے والے مضامین پر براہ راست اثر پڑتا ہے۔ مثلاً کہ وہ اگلے سال اگلی جماعت میں جا پائے گا یا نہیں، دلچسپی رکھنے والے مضامین پڑھ سکے گا یا نہیں وغیرہ۔ اس لیے معلم کو چاہیے کہ وہ پہلے ہی اسسٹمنٹ کی منصوبہ بندی کرے اور امتحان کے پرچے تیار کرے، تفویضات (Assignment) کے عنوانات/سوالات تیار کرے یا کسی مضمون کے متعلق سے طلباء کو پروجیکٹ تیار کرنے کے لیے کہے، وغیرہ۔ کیونکہ ان تمام کی بنیاد پر ہی معلم کو یقینی طور پر نشانات (Marks) یا گریڈس (Grades) دینا پڑے گا۔ اس اعتبار سے بازسی میں نشانات، گریڈس اور کیفیاتی بیان کا مقام کافی بڑھ جاتا ہے اور معلم کو اس کا بہت احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے۔

نشانات اور گریڈنگ میں مسائل (Problems with Marking & Grading)

طلباء کو نشانات (Marks) دینا (1st, 2nd, 3rd) ان کے لیے کسی خوف سے کم نہیں ہے، اس کے مقابلے میں طلباء کو کسی گروپ میں ترتیب دینا اور درجہ کرنا ان کے لیے زیادہ آسان اور قابل تسکین سبب ہوتا ہے۔ جیسے A, B, C وغیرہ۔ (CBSE) مرکزی ثانوی تعلیمی بورڈ نے ہمیشہ گریڈس (Grades) کو زیادہ اہمیت دیا ہے اور موجودہ دور میں گریڈنگ کو ہی ترجیح دی جا رہی ہے۔ گریڈنگ میں طلباء کو کسی سرگرمی یا کارکردگی کی بنیاد پر (Minimum Level of Learning) MLL کو ذہن میں رکھتے ہوئے درجات (Grades) دینا کافی چکدار اور مساوی ہوتا ہے۔ اچھی قدر پیمائی میں معقولیت ہوتی ہے جو طلباء کی سیکھی ہوئی معلومات کی ہی جانچ کرتی ہے۔ یہ قابل اعتماد بھی ہوتی ہے کیونکہ قدر پیمائی کرنے والے مختلف افراد ایک جیسی سرگرمی و کارکردگی کی بنیاد پر طلباء کو مشابہ مارکس دیتے ہیں۔

اپنی معلومات کی جانچ کیجیے (Check your progress)

1- اچھی رپورٹنگ سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بیان کیجیے۔

2- طلباء کی مجموعی پروفائل کی رپورٹنگ کیجیے۔

5.6 رپورٹنگ (Reporting)

رپورٹنگ کے معنی و اقسام (Meaning & Types)

یہ اسسٹم کے عمل کا لازمی حصہ ہے۔ اس کے بغیر کسی بھی عمل کا اسسٹم اپنی معتبریت کھودیتا ہے۔ رپورٹنگ ایک یا ایک سے زائد گروپ کی کی جاسکتی ہے۔ رپورٹنگ تعلیمی ماحول اور اس کے نظام، اسکول اور اس کے عملے اور طالب علم و ان کے خاندان والوں کی پیش کی جاسکتی ہے۔ رپورٹس ان معلومات کو فراہم کرتی ہے جو مسائل اور معطیات کی تحقیق اور ان کے تجزیے کے نتیجے میں مرتب کی جاتی ہے۔ رپورٹس موضوعات کے ایک وسیع دائرہ کا احاطہ کرتی ہیں لیکن عام طور پر مخصوص شائقین کے لیے ایک واضح مقصد کے ساتھ معلومات کی ترسیل پر توجہ مرکوز کرتی ہیں۔ صحیح ہو یا غلط، کسی کام کی کوالٹی یا معیار کا تعین و فیصلہ تحریری رپورٹ اور اس کی کوالٹی پر مبنی ہوتی ہے اور اس کے مواد، اس کا نظم اور اس کی وضاحت کو شامل کرتی ہے۔

رپورٹ کی اقسام (Types of Report)

طلباء کے اکتسابی رپورٹ مختلف اقسام کے ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اسسٹم رپورٹ، بازرسی کی رپورٹ، لیب رپورٹ، تفویض کی رپورٹ، فیلڈ رپورٹ، فیلڈ رپورٹ، منصوبے کی رپورٹ، جامع اکتسابی رپورٹ، مخصوص اکتسابی رپورٹ وغیرہ۔ رپورٹ تیار

کرنے متعدد شکلیں ہو سکتی ہیں، مثال کے طور پر مستقل پرنٹ رپورٹس، رپورٹ کارڈ یا دستاویز کی شکل میں، الیکٹرانک رپورٹنگ، ذاتی ملاقات، وغیرہ۔ مختلف حالات اور صورت حال پر منحصر ہر ایک رپورٹ کی شکلیں مثبت اور منفی دونوں خصوصیات کو شامل کیے ہوئے ہیں۔ بہر حال مستعدی سے اور فوری رپورٹ تیار کرنا رپورٹنگ کی ایک اہم خصوصیت ہے۔

اچھی رپورٹنگ کی خصوصیات (Characteristics of Good Reporting): ایک اچھی رپورٹ درست، معروضی اور مکمل دستاویزات ہوتی ہے۔ یہ اچھی طرح تحریر ہو، واضح طور پر منظم ہو اور اس طرح پیش کیا جانا چاہیے کہ قارئین کی توجہ قائم رہے اور ان کے توقعات یا امیدوں کو پورا کرتی ہو۔ اکثر رپورٹ کی تحریر اس طرح منظم کی جاتی ہے کہ وہ حاصل (Findings) کو معلوم کرنے کے عمل کی عکاسی کرتی ہے۔ حاصل (Findings) کی تحریر ان کے خلاصہ (Summary)، تعارف و پس منظر (Introduction and Background)، طریقے کار (Methodology)، نتائج (Results)، بحث (Discussion)، اور نچوڑ (Conclusion) اور سفارشات (Recommendations) پر مشتمل ہوتی ہے۔ رپورٹس میں سفارشات (Recommendations) کی شمولیت ایک ایسی واحد وجہ ہے جو سبھی اداروں میں تحریر کی ایک عام شکل کو پیش کرتی ہے کیوں کہ مخصوص سفارشات فیصلہ سازی کے لیے مفید ہوتی ہیں۔

رپورٹس کی وسعت (Scope) اور اسٹائل (Style) بہت ہی مختلف ہوا کرتی ہے۔ عام طور پر یہ تین کلیدی عوامل پر منحصر ہوتی ہے۔ رپورٹ کا مقصد، اقسام معلومات جس کو رپورٹ میں پیش کرنا ہے اور پورٹ کے سامعین یا قارئین جو اس رپورٹ کو پڑھیں گے۔ مثلاً تکنیکی رپورٹ کے ذریعے تکنیکی معلومات ہی فراہم کی جائے گی، اس لیے رپورٹ میں تکنیکی حد قارئین کی تکنیکی تصور سے واقفیت اور اس کی تفہیم پر انحصار کرے گی۔ موثر رپورٹنگ میں مندرجہ ذیل باتیں شامل ہوتی ہیں:

- اسسٹمیٹ اور رپورٹنگ کی مجموعی نوعیت کی عکاسی کرتا ہو۔
- معقول اور معتبر اسسٹمیٹ پر مبنی ہو۔
- سبھی طلباء کی شمولیت ہو مخصوص طور پر پسماندہ و خصوصی ضروریات والے طلباء کو ضرور شامل کیا جائے۔
- طلباء و افراد کی نجی باتوں کی رازداری اور تحفظ ہو۔
- تحریری رپورٹ میں سادہ زبان کا استعمال ہونا چاہیے۔
- طلباء کے اکتساب کے ہر مضمون و مطالعہ کی کامیابی کی اطلاع گریڈس کی شکل میں شامل ہونے چاہیے۔
- رپورٹ میں اس بات کو بھی شامل کیا جائے کہ ہم رتبہ طلباء کی تعداد کتنی ہے اور تمام طلباء کے اکتسابی مضامین یا یونٹ وغیرہ کس سطح کی ہیں اس کی نشاندہی بھی گریڈس کے مطابق کی جائے اور اس بات کی یقین دہانی کی جائے کہ فراہم کردہ معلومات سے فرد یا طلباء کی نجی باتوں کے ساتھ کسی قسم کی مداخلت نہیں کرتی۔
- تحریری رپورٹ پر طلباء اور ان کے والدین کو اساتذہ کے ساتھ تبادلہ خیال کا ایک موقع دیا جانا چاہیے۔
- اسکول کی رپورٹ میں مندرجہ ذیل باتیں بھی شامل ہونی چاہیں۔

رپورٹنگ کے لیے حکمت عملی (Strategy)

رپورٹنگ کا وقت اور اس کی فریکوئنسی (Time & Frequency)۔

اگر طلباء کسی مسائل کا سامنا کر رہے تو اس بات کی یقین دہانی کی جائے کہ ان کے والدین کو مطلع کر دیا گیا ہے۔

- تحریری رپورٹ کے علاوہ مختلف ابلاغی حکمت عملی اکتسابی ثبوت کی حد اطلاق کو یقینی بنانے کے لیے استعمال کیے جاسکتے ہیں اور کارناموں و کامیابی کو ایک مناسب طریقہ اور بروقت انداز میں مشترک کیا جاسکتا ہے۔ اس میں استاد، طالب علم، اور والدین کے ساتھ انٹرویو یا ملاقات کو بھی شامل کیا جاسکتا ہے۔ اور اس میں، طالب علم کے کام، تفویضات، نمائش (Exhibitions) اور طلباء کی کارکردگی وغیرہ مثالوں کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔

5.6.1 رپورٹنگ کے مقاصد (Purposes of Reporting)

(a) طلباء کی پروفائل و پیش رفت بتانے کے لیے (To communicate Progress & Profile of Learner)

جامع پروفائل یا پورٹ فولیو (Portfolio) طلباء کے کارکردگی کا مجموعہ ہے جو مصنوعات کے انتخاب کے ضمن میں ایک مخصوص طالب علم کی کارکردگی کی نمائندگی کرتا ہے جیسا کہ اس سے پہلے اس کا ذکر گزر چکا ہے۔ اگرچہ کہ پورٹ فولیو پروگرام تیار کرنے کا کوئی واحد درست طریقہ نہیں ہے لیکن اس میں طلباء کو جمع کرنے، انتخاب کرنے اور عکاسی کی توقع کی جاتی ہے۔ منتخب شدہ ٹکڑوں کی ایک پورٹ فولیو کی تعمیر اور ان کی انتخاب کے لیے بنیاد کی وضاحت کرتے ہوئے، طلباء، استاد اور ہم مرتبہ طلباء کے ان پٹ کو شامل کیا جائے۔ اچھے کام کے لیے طلباء کو واضح ہدایات اور مثالوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج کل کمرہ جماعت میں نظام تدریس انتہائی لچکدار ہو گیا ہے۔ جس میں طلباء کی عمر، گریڈ کی سطح، اسسمینٹ کے آلے اور متنوع نصاب وغیرہ سب کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ پورٹ فولیو طریقہ تدریس میں بہت ہی مفید ہے اور تدریسی نقطہ نظر سے طلباء کے کردار کی تعمیر اور علم و عمل کو فروغ دینے میں معلم کے کردار اور اس کے رول میں سہولت فراہم کرتا ہے۔

ایک اچھا پورٹ فولیو اساتذہ، منتظمین اور پالیسی سازوں کے منصوبہ بندی اور کوششوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ پورٹ فولیو اسکول کے وسائل کے ساتھ ساتھ اساتذہ اور طلباء پر اضافی مطالبات رکھتے ہیں۔ اس کے لیے اساتذہ میں طلباء کے موضوع کے علاقے اور تدریسی مہارتوں کی مکمل تفہیم کے ساتھ ساتھ ان کی منصوبہ بندی کے لیے اضافی وقت، دیگر اساتذہ کے ساتھ صلاح کرنا، مواد کی ترقی کے لیے حکمت عملی اور انفرادی طالب علم اور چھوٹے گروپوں کے ساتھ ملاقات، طالب علم کے کام پر جائزہ اور تبصرہ وغیرہ کی بھی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ طلباء کی پروفائل رکھنے کے لیے یا کافی ہنگے سامان جسے ویڈیو کیمرے وغیرہ رکھنے کے لیے اساتذہ کو کمرے جماعت میں اضافی جگہ کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ طلباء کے پورٹ فولیو یا پروفائل میں ان کے واقعاتی ریکارڈ اور مجموعی ریکارڈ کو شامل کیا جاسکتا ہے۔ یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ بہت تفصیلی، غیر ضروری اور غیر جامع ریکارڈس کو پرھنے اور استعمال کرنے کے بہت کم امکانات ہوتے ہیں۔ اس لیے اس بات کی کوشش کی جائے کہ ان میں طلباء کے مخصوص مسائل، اکتسابی مشکلات یا کامیابیوں کو مع مثال شامل کیا جائے۔ طلباء کی ضروری اکتسابی پروفائل کی تشکیل میں جامع اکتسابی پروفائل کے فریم ورکس کے ذریعے کافی مدد مل سکتی ہے۔

رپورٹنگ کا ایک اہم ترین مقصد طلباء کی پروفائل و پیش رفت (Progress & Profile of Learner) بتانے کے لیے کیا جاتا

ہے۔ مندرجہ ذیل باتوں کو ذہن میں رکھ کر ایک استاد رپورٹنگ کے ذریعے طلباء اور پورے تعلیمی نظام کی کارکردگی میں بہتری لاسکتا ہے:

- (1) رپورٹنگ کا ایک اہم مقصد طلباء کے اکتساب کو فروغ دینا ہے جو کہ طلباء کی کامیابی اور ترقی کے بارے میں طلباء اور والدین کو معلومات فراہم کر کے اور طلباء کی مزید اکتسابی ترقی کے علاقوں کی نشان دہی کر کے کی جاسکتی ہے۔
- (2) طلباء کے اکتساب کی مدد اور ترقی کے لیے استاد اور والدین کے درمیان شراکت داری کو فروغ دینا۔
- (3) اسکول اور والدین کے درمیان موثر شراکت داری کے لیے جو کہ طلباء کے اکتساب کو فروغ دے۔
- (4) رپورٹ، طلباء کی ترقی اور کامیابی کے کسی خاص مقام پر خاص طالب علم کی ایک باقاعدہ ریکارڈ فراہم کرتی ہے۔
- (5) طلباء کے اکتساب کو فروغ دینا اور ان کی حوصلہ افزائی اور سیکھنے کے ساتھ وابستگی کو بڑھانا۔
- (6) طلباء کی تعلیمی عمل کی رپورٹنگ میں شرکت کو فروغ دینا تاکہ ان میں سیکھنے کی ذمہ داری لینے کے لیے حوصلہ افزائی ہو۔

(b) فن تدریس کے متعلق فیصلے لینے کے لیے بنیاد (Basis for Further Pedagogical Decissions)

رپورٹنگ کا دوسرا اہم ترین مقصد فن تدریس کے متعلق فیصلے (Pedagogical Decissions) لینے کے لیے بنیاد (basis) فراہم کرنا ہے۔ مندرجہ ذیل باتوں کو ذہن میں رکھ کر ایک استاد رپورٹنگ کے ذریعے تعلیمی فیصلے سے طلباء اور پورے تعلیمی نظام کی کارکردگی میں بہتری لاسکتا ہے:

- (1) طلباء کی کامیابی کی رپورٹنگ، اسکولی احتساب اور طلباء کے اکتساب و ما حاصل کے لیے تعلیمی فیصلوں لینے کے لیے ایک پیمانہ فراہم کرتا ہے۔
- (2) یہ طلباء کی فکری، سماجی اور ذاتی ترقی کے بارے میں باقاعدہ، صحیح اور جامع معلومات فراہم کرتی ہے۔
- (3) طلباء نے آج کی تاریخ میں کیا حاصل کیا ہے اس بارے میں تفصیلی و واضح اور قابل فہم معلومات فراہم کرتی ہے۔
- (4) ہر طالب علم کو تعلیم و مستقبل کی ترقی کے لیے منصوبہ بندی کرنے میں سہولت فراہم کرتی ہے۔
- (5) رپورٹنگ میں تعلیم کے دونوں نصابی اور غیر نصابی تذکرے طلباء کی کامیابی کی عکاسی کرتے ہیں۔
- (6) رپورٹنگ میں اسکولی سماج کی ضروریات کے مطابق رپورٹنگ کرنے کے لیے مختلف حکمت عملی کا استعمال ہوتا ہے۔
- (7) رپورٹنگ مزید ترقی اور حکمت عملی کو فروغ دینے یا اکتساب کی توسیع کرنے کے لیے طلباء کے مستحکم اور کمزور علاقوں کی شناخت پیش کرتا ہے۔
- (8) رپورٹس طلباء کی سماجی ترقی اور اسکول کے پروگرامس اور سرگرمیوں میں شامل ہونے کے بارے میں معلومات فراہم کرتی ہے۔
- (9) رپورٹنگ طلباء کے رویے اور اکتساب کے بارے میں ان کی رغبت کے بارے میں معلومات فراہم کرتی ہے۔
- (10) رپورٹنگ طلباء کی اسکول میں حاضری کا ریکارڈس فراہم کرتی ہے۔

5.6.2 طلباء کی جامع پروفائل کی تشکیل اور اس کا نظم

(Developing & Maintaining a Comprehensive Learner Profile)

یہ تدریس اور اسسمیٹ کی ایک اہم خصوصیت میں سے ہے تاہم ان سرگرمیوں کو موثر طریقے سے مکمل کرنے کے لیے کچھ بنیادی

سوالات کو خطاب کرنا ضروری ہے:

- جامع پروفائل کیا ہے؟

- استاد طلباء کی جامع پروفائل کیوں بناتے ہیں اور اُسے برقرار رکھتے ہیں؟
- کن افراد کے لیے یہ تیار کی جاتی ہے؟
- اس کی قدر و اہمیت کیا ہے؟

جامع پروفائل یا پورٹ فولیو (Portfolio) طلباء کے کارکردگی کا مجموعہ ہے جو مصنوعات کے انتخاب کے ضمن میں ایک مخصوص طالب علم کی کارکردگی کی نمائندگی کرتا ہے جیسا کہ اس سے پہلے اس کا ذکر گزر چکا ہے۔ اگرچہ کہ پورٹ فولیو پروگرام تیار کرنے کا کوئی واحد درست طریقہ نہیں ہے لیکن اس میں طلباء کو جمع کرنے، انتخاب کرنے اور عکاسی کی توقع کی جاتی ہے۔ منتخب شدہ نمونوں کی ایک پورٹ فولیو کی تعمیر اور ان کی انتخاب کے لیے بنیاد کی وضاحت کرتے ہوئے، طلباء، استاد اور ہم مرتبہ طلباء کے ان پٹ کو شامل کیا جائے۔ اچھے کام کے لیے طلباء کو واضح ہدایات اور مثالوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج کل کمرہ جماعت میں تدریس نظام انتہائی لچکدار ہو گیا ہے۔ جس میں طلباء کی عمر، گریڈ کی سطح، اہلیت کے آلے اور متنوع نصاب وغیرہ سب کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ پورٹ فولیو طریقہ تدریس میں بہت ہی مفید ہے اور تدریسی نقطہ نظر سے طلباء کے کردار کی تعمیر اور علم و عمل کو فروغ دینے میں معلم کے کردار اور اس کے رول میں سہولت فراہم کرتا ہے۔

ایک اچھا پورٹ فولیو اساتذہ، منتظمین اور پالیسی سازوں کے منصوبہ بندی اور کوششوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ پورٹ فولیو اسکول کے وسائل کے ساتھ ساتھ اساتذہ اور طلباء پر اضافی مطالبات رکھتے ہیں۔ اس کے لیے اساتذہ میں طلباء کے موضوع کے علاقے اور تدریسی مہارتوں کی مکمل تفہیم کے ساتھ ساتھ ان کی منصوبہ بندی کے لیے اضافی وقت، دیگر اساتذہ کے ساتھ صلاح کرنا، مواد کی ترقی کے لیے حکمت عملی اور انفرادی طالب علم اور چھوٹے گروپوں کے ساتھ ملاقات، طالب علم کے کام پر جائزہ اور تبصرہ وغیرہ وغیرہ کی بھی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ طلباء کی پروفائل رکھنے کے لیے یا کافی مہنگے سامان جسے ڈیویکس وغیرہ رکھنے کے لیے اساتذہ کو کمرے جماعت میں اضافی جگہ کی ضرورت ہو سکتی ہے۔

طلباء کی جامع پروفائل کی تشکیل اور اُسکے نظم کا ایک اہم مقصد طلباء کی انفرادی ترقی کی نگرانی اور ان کے مستقبل کے اکتساب کی منصوبہ بندی میں مدد کرنا ہے۔ طلباء کی جامع پروفائل کی تشکیل اور اُسکے نظم کے تین اہم افعال ہیں جو کہ مندرجہ ذیل ہیں:

- (1) نگرانی اور آئندہ کی منصوبہ بندی کرنے کے لیے: جو معلومات جمع کرتے ہیں وہ مستقبل کی منصوبہ بندی کے لیے کارآمد ہونا چاہیے اور اس معلومات میں طلباء کے خصوصی مسائل کی شناخت بھی ہونی چاہیے۔ اس تناظر میں اساتذہ کے ذریعے منصوبہ بندی طلباء کی پچھلی پیش رفت پر تعمیر ہونی چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ اس بات کا یقین کرے کہ وہ طالب علم کی وسعت اور گہرائی میں مختلف اکتسابی مضامین کا احاطہ کر کے مناسب انداز میں ترقی کرنے کو فروغ دیتے ہیں۔ یہ اساتذہ کے لیے ضروری ہے کیوں کہ یہ معلومات کے منتقلی کے تسلسل اور اکتساب کی ترقی کی نگرانی کرنے کی کلید ہیں۔ تمام اساتذہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ایک نوٹ بک (Notebook) رکھے جس میں وہ طلباء کا ریکارڈ لکھے جس میں نشانات، درجات، تبصرے اور اسکور وغیرہ شامل ہوں۔ زیر تربیت طلباء نوٹ بک (Notebook) کا استعمال کیسے کرتا ہے یہ درست ریکارڈ کی اور پوری جماعت کی سرگرمیوں کی نگرانی کے ساتھ ساتھ انفرادی طالب علم کی پیش رفت فراہم کرنے کی کلید ہے۔ اس طرح کے ریکارڈنگ کے ذریعے اساتذہ کو طلباء کے مختلف پہلوں جیسے کہ تفویضات کی تکمیل، اس کی نوعیت، ماحصل گریڈس، نامکمل کام اور مجموعی طور پر ترقی میں ایک عمومی رہنمائی پر فوری نظر و مطالعہ کر سکتے ہیں۔

(2) دوسروں کو مطلع کرنا: دوسروں کو جیسے والدین کو، ساتھی و دوسرے طلباء کو، پورے اسکول کو، وغیرہ، طلباء کی جامع پروفائل کی تشکیل و رپورٹنگ کا ایک اہم مقصد ہے کیوں کہ اس کے بغیر ہمہ جہتی ترقی ناممکن ہوگی۔ کن کن دوسرے لوگوں کو مطلع کریں، کب کریں اور کیسے کریں، یہ سبھی تفصیلات آئندہ منسلک حصہ میں تحریر کی گئی ہے۔

(3) اس بات کا مظاہرہ کرنا کہ ان مقاصد کا حصول اچھی طرح کیا جا رہا ہے: ایک اچھا موثر ریکارڈس کو بنانے و برقرار رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی افادیت کو سمجھا جائے۔ اس کے لیے مندرجہ ذیل دو علاقوں کی معلومات کو خطاب کرنا ضروری ہے:

- کن کن معلومات کی تفصیل و مقدار کو قلم بند کیا جائے۔
- ان معلومات کا استعمال کس طرح کیا جائے۔

طلباء کے پورٹ فولیو یا پروفائل میں ان کے واقعاتی ریکارڈ اور مجموعی ریکارڈ کو شامل کیا جاسکتا ہے۔ یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ بہت تفصیلی، غیر ضروری اور غیر جامع ریکارڈس کو پرہیز اور استعمال کرنے کے بہت کم امکانات ہوتے ہیں۔ اس لیے اس بات کی کوشش کی جائے کہ ان میں طلباء کے مخصوص مسائل، اکتسابی مشکلات یا کامیابیوں کو ملح مثال شامل کیا جائے۔ طلباء کی ضروری اکتسابی پروفائل کی تشکیل میں جامع اکتسابی پروفائل کے فریم ورکس کے ذریعے کافی مدد مل سکتی ہے۔

5.6.3 طلباء کی مجموعی پروفائل کی رپورٹنگ (Reporting a Consolidated Learner Profile):

طلباء کی مجموعی پروفائل کی رپورٹنگ ایک بہت ہی اہم مرحلہ ہے۔ یہ ضروری ہے کہ کن کن لوگوں کو طلباء کی مجموعی پروفائل کی رپورٹنگ کرنا ضروری ہے اور وہ کب اور کیسے کی جانی چاہیے۔ انفرادی طالب علم کی ترقی کی نگرانی کے لیے ریکارڈ رکھے جاتے ہیں۔ انفرادی طالب علم کے ساتھ ساتھ پوری جماعت کی ترقی اور مسئلے کی معلومات کے بارے میں مختلف قسم کے سامعین یا قارئین کو مطلع کیا جاتا ہے۔ مندرجہ ذیل میں رپورٹنگ کے تین اہم مختلف لوگوں کے بارے میں تفصیل دی گئی ہے (ہر رپورٹنگ میں مختلف مہارت اور ثبوت کی ضرورت ہو سکتی ہے لیکن ہر رپورٹ کو جمع کی گئی معلومات کی بنیاد پر مطلع کیا جانا چاہیے):

(1) والدین کو رپورٹ کرنا (Reporting to Parents)

طلباء کی اکتسابی نشوونما میں والدین کلیدی اور اہم کردار ادا کرتے ہیں تو والدین کو موثر، با معنی اور مربوط رپورٹ کرنا ضروری ہے۔ اسکول عام طور پر شاگردوں کے پیش رفت کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے تین اہم راستے پیش کرتے ہیں۔ تحریری رپورٹ، والدین کے ساتھ کسی طے شدہ وقت میں کلاس ٹیچر یا استاد کے ساتھ ملاقات کرنا وغیرہ۔ ایک تعلیمی سال کے اختتام پر ہر طالب علم کو تحریری رپورٹ دی جاتی ہے۔ جہاں تک ممکن ہو ان اہم مرحلے کی رپورٹس میں انفرادی طالب علم کی ہر موضوعی علاقے میں حاصل کردہ گریڈس، اکتساب کی سطح، اساتذہ کا اسسٹمنٹ اور ان کی پیش رفت پر تبصرہ (Commentary) کی عکاسی ہونی چاہیے۔

(2) طلباء کو رپورٹ کرنا (Reporting to Pupils)

یہ طلباء کا حق ہے وہ اپنے تعلیمی معیار اور ترقی کے بارے میں جانیں۔ استاد مختلف طریقوں سے اس مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں، با زری ایک کلید ہے۔ اسسٹمنٹ کے بعد چاہے وہ ہوم ورک ہو یا ایک جانچ (test) ہو، طلباء نے اس میں کیا حاصل کیا ہے اور انہیں مزید ترقی کے لیے کن باتوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، استاد ان باتوں کو بھی رپورٹ میں ظاہر کریں اور اس طالب علم اور دوسرے طلباء کو اس کی اطلاع دیں۔

(3) پورے اسکول کو رپورٹ کرنا (Reproting to Whole School)

یہ ایک فن و ہنر ہے جو تربیت یافتہ اساتذہ اپنی تعلیمی پیشے میں وقت کے ساتھ ساتھ سیکھتے ہیں۔ طلباء کے لیے کسی شعبے میں جگہ کا تعین کرنے کے لیے ان کی مختلف موضوعات، علاقوں کا احاطہ کیا جاتا ہے جس میں ہوم ورک، سیٹ کام، غیر نصابی سرگرمیاں، جانچ کے نتائج اور نشانات، میرٹ وغیرہ شامل ہیں۔ یہ ایک اہم ریکارڈ ہے یہ اس لیے کہ اس میں بعض موضوعات کی تعلیم و تدریس کے دوران طلباء کی طرف سے سیکھنے میں ہونے والی دشواریوں کا بھی تذکرہ ہوتا ہے یہ تمام معلومات استاد کلاس ٹیچر کو منتقل کرتے ہیں اور وہ ایک رپورٹ کی شکل میں پورے اسکول کے سامنے اس کو پیش کرتے ہیں۔

5.7 فرہنگ (Glossary)

اردو لفظ (Urdu Word)	انگریزی لفظ (English word)	وضاحت (Description)
ڈاٹا	Data	یہ کسی حقائق کی اعدادی شکل ہے جو کسی چیز کی مقدار اور خصوصیات کے بارے میں بتاتا ہے۔
مرکزی رجحان	Central Tendency	ایسے اسکور کو جو پورے گروپ کی نمائندگی کرتا ہے مرکزی رجحان کی قدر کہا جاتا ہے۔
اوسط	Mean or Average	وہ اسکور ہے جو پیمائشوں کی کل جمع کو ان کی تعداد سے تقسیم کرنے پر حاصل ہوتا ہے۔
وسطانیہ	Median	وہ قدر ہے جو کسی گروہ کو دو مساوی حصوں میں تقسیم کرتی ہے۔
بہتاتیہ	Mode	وہ اسکور ہے جو گروہ میں سب سے زیادہ بار آتا ہے یعنی جس کی تعداد (Frequency) سب سے زیادہ ہوتی ہے۔
انحراف	Deviation	یہ وہ خصوصیت جو مرکزی قیمت کے گرد منتشر اقدار کی حد کا اظہار کرتی ہے۔
وسعت	Range	یہ کسی تغیر کی اعظم ترین (extreme) قیمتوں میں فرق کا اظہار کرتی ہے۔
ربعی انحراف	Quartile Deviation	نیم بین ربعی وسعت (Semi Inter Quartile Range) کو ربعی انحراف کہتے ہیں۔
اوسط انحراف	Mean Deviation	تمام اقدار کے ہندسی اوسط سے حاصل شدہ انحرافات کے اوسط کو اوسط انحراف کہتے ہیں۔
معیاری انحراف	Standard Deviation	اوسط مربع انحراف (Mean Square Deviation) یا تغیر پذیری (Variance) کے مثبت جذر المربع کو ہی معیاری انحراف کہتے ہیں
ربعی تقسیم	Quartile	ربعی تقسیم وہ اقدار ہیں جو جملہ تعداد کو چار مساوی حصوں میں تقسیم کرتی ہیں۔
عشری تقسیم	Decile	عشری تقسیم وہ اقدار ہیں جو جملہ تعداد کو دس مساوی حصوں میں تقسیم کرتی ہیں۔

فیصد کے معنی ہیں کہ ایک سو (100) میں کتنا۔	Percentage	فیصد
یہ وہ اقدار ہیں جو جملہ تعداد کو مساوی حصوں میں تقسیم کرتی ہیں۔	Percentile	فیصد تقسیم
کسی اسکور کا فیصد تقسیمی رینک تقسیم کاری میں وہ فیصد اسکور ہوتا ہے جو اس دی گئی اسکور کے برابر یا اس سے کم ہوتا ہے۔	Perecentile Rank	فیصد تقسیمی رینک
دو متغیرات کے درمیان پائے جانے والے رشتہ کو ہی ارتباط یا ہم رشتگی (Correlation) کہتے ہیں۔	Corelation	ارتباط
کسی مخصوص سطح کی اکتسابی کارکردگی کو ظاہر کرنے کے لیے جب نمبرات کے بجائے الفاظ جیسے کہ A، B، C، D وغیرہ کا استعمال نشانات کے طور پر کیا جاتا ہے تو، ان الفاظ کو ہی گریڈس کہتے ہیں۔	Grade	گریڈ
یہ کسی خاص گروپ کی کارکردگی کے حوالے سے ٹیسٹ کے نتائج کو بتاتا ہے یا تشریح کرتا ہے۔	Norm Reference	نارم حوالہ جات
یہ کسی خاص کرائٹیریا کے حوالہ سے ٹیسٹ کے نتائج کو بتاتا ہے یا تشریح کرتا ہے۔	Criterion Reference	کرائٹی ٹیرین حوالہ جات
یہ خداپنی ذات کے حوالہ سے ٹیسٹ کے نتائج کو بتاتا ہے یا تشریح کرتا ہے۔	Self Reference	خدا حوالہ جات
یہ کسی بھی فرد کی کارکردگی اور برتاؤ پر کو بہتر بنانے کے لیے اس کے بارے میں رائے و معلومات فراہم کرتی ہے۔	Feedback	بازرسی
ان معلومات کو فراہم کرتی ہے جو معطیات کی تحقیق اور ان کے تجزیے کے نتیجے میں مرتب کی جاتی ہے۔	Report	رپورٹ
ایک ایسا دستاویز جس میں طلباء کی کارکردگی کے مجموعہ کا تذکرہ ہوتا ہے۔	Portfolio	پورٹ فولیو
پورٹ فولیو میں سے منتخب شدہ طلباء کی مخصوص کارکردگی کو ظاہر کرنے والا دستاویز جس کو کسی خاص مقصد کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔	Profile	پروفائل

5.8 یاد رکھنے کے نکات (Points to be Remebered)

- ✧ ڈاٹا کسی حقائق کی اعدادی شکل ہے جو کسی چیز کی مقدار اور خصوصیت کے بارے میں بتاتا ہے۔
- ✧ ڈاٹا کو مختلف شکلوں میں مثلاً جدول شکل میں، تعدادی اقسام کی شکل میں اور مختلف ترتیم کی شکل میں پیش کیا جاسکتا ہے۔
- ✧ ایک عدد جو مکمل ڈاٹا کی نمائندگی کرتا ہے اس ڈاٹا کے لیے مرکزی روجان کہی جاتی ہے۔
- ✧ مرکزی روجان کی پیمائش اوسط، وسطانیہ اور بہتاتیہ کی شکل میں کی جاتی ہے۔

- ✦ انحراف کی مختلف پیمائشی وسعت، ربعی تقسیم، اوسط انحراف اور معیاری انحراف ہیں۔
- ✦ وہ خصوصیت جو مرکزی قیمت کے گرو قیمتوں کے پھیلاؤ کا اظہار کرتی ہے انحراف یا انتشار کہلاتی ہے۔
- ✦ مرکزی رجحانات کی پیمائش اوسط، وسطانیہ اور بہتانیہ کی شکل میں کی جاتی ہے۔
- ✦ عمودی منحنی تعلیمی تعین قدر اور پیمائش میں بہت معاون ہے یہ کسی فرد کے گروپ میں متعلقہ مقام کو واضح کرتی ہے
- ✦ عمودی منحنی معلم کے لیے اہم آلہ ہے جس کے ذریعے وہ پیمائش کردہ متغیر کی بنیاد پر اسکور کی تقسیم کاری کی نوعیت طے کر سکتا ہے۔
- ✦ عمودی منحنی کے ذریعے معلم پرچہ سوالات میں دشواری کی سطح طے کر سکتا ہے۔
- ✦ فیصد تقسیم کے ذریعے کسی تقسیم کاری کا معیار طے کیا جاسکتا ہے۔
- ✦ فیصد تقسیمی رینک کے ذریعے کسی جماعت میں کسی طلب علم کی کارکردگی کیسی ہے بتائی جاسکتی ہے۔
- ✦ شرح ارتباط کے ذریعے جوڑ بند متغیر کے رشتے کی پیمائش کی مقدار متعین کی جاتی ہے۔
- ✦ شرح ارتباط کی قیمت 1.0- سے +1.0 تک ہوتی ہے۔
- ✦ شرح ارتباط تعلیمی جانچ، ان کو معیاری بنانے اور پیش گوئیوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔
- ✦ بازاری کسی بھی فرد کی کارکردگی اور برتاؤ پر کو بہتر بنانے کے لیے اس کے بارے میں رائے و معلومات فراہم کرتی ہے۔
- ✦ بازاری تشکیلی اسسٹنٹ کا ایک اہم جز ہے۔
- ✦ تعلیمی فیصلے لینے کے لیے اور مزید اکتساب کے لیے بازاری کا استعمال کیا جاتا ہے۔
- ✦ بازاری زبانی اور تحریری دونوں طرح سے کی جاسکتی ہے۔
- ✦ بازاری استاد اور ساتھی طالب علم دونوں کے ذریعے کی جاسکتی ہے۔
- ✦ بازاری فوری دی جانی چاہیے۔
- ✦ بازاری مثبت اور منفی دونوں ہو سکتی ہے۔
- ✦ بازاری میں نشانات، گریڈس اور کیفیاتی بیان کا مقام کافی بڑھ جاتا ہے اور معلم کو اس کا بہت احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے۔
- ✦ ایک اچھی رپورٹ درست، معروضی اور مکمل دستاویز ہوتی ہے۔
- ✦ رپورٹنگ کا ایک اہم ترین مقصد طلباء کی پروفائل و پیش رفت بتانے کے لیے کیا جاتا ہے۔
- ✦ رپورٹنگ کا دوسرا اہم ترین مقصد تعلیمی فیصلے لینے کے لیے بنیاد (basis) فراہم کرنا ہے۔
- ✦ والدین کو، ساتھی دوسرے طلباء کو، پورے اسکول کو، وغیرہ، طلباء کی جامع پروفائل کی تشکیل و رپورٹنگ کا ایک اہم مقصد ہے۔

5.9 اکائی کے اختتام کی سرگرمیاں (Unit End Exercises)

معروضی جوابات کے حامل سوالات؛

- 1- ڈاٹا 3,4,6,8,4,5,3,8,6,3 کا اوسط ہوگا:
 - (1) 3
 - (2) 4
 - (3) 5
 - (4) 8
- 2- ڈاٹا 3,4,6,8,4,5,3,8,6,3 میں وسطانیہ کی قدر ہے:
 - (1) 3.5
 - (2) 4.5
 - (3) 6.5
 - (4) 8.5
- 3- ڈاٹا 3,4,6,8,4,5,3,8,6,3 میں بہتاتیہ ہے:
 - (1) -1
 - (2) 0
 - (3) 1
 - (4) 2
- 4- مندرجہ ذیل میں سے کون سی شرح ارتباط کی قدر نہیں ہو سکتی ہے:
 - (1) 0
 - (2) -1
 - (3) 1.01
 - (4) 1
- 5- بازرسی کی کون کون سی شکلیں ہو سکتی ہیں؟:
 - (1) تحریری
 - (2) زبانی
 - (3) A اور B دونوں
 - (4) ان میں سے کوئی نہیں

مختصر جوابات کے حامل سوالات؛

- 1- مرکزی رجحان کی پیمائش سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بیان کیجیے۔
- 2- کج پن اور کوہانیت کی تعریف بیان کیجیے۔
- 3- بازرسی کی اہم خصوصیات بیان کیجیے۔
- 4- رپورٹنگ کے معنی واقسام کو بیان کیجیے۔

طویل جوابات کے حامل سوالات؛

- 1- تشکیلی اسسمنٹ بازرسی کا ایک اہم جز ہے مع مثال اس کی وضاحت کیجیے۔
- 2- طلباء کی جامع پروفائل کی تشکیل واس کا نظم کس طرح کریں گے؟ بیان کیجیے۔
- 3- بازرسی میں نشانات گریڈس اور کیفیتی بیان کا کیا استعمال ہے؟ تفصیل سے بیان کیجیے۔

5.10 مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں (Suggested Books for Further Readings)

- Aggarwal, Y.P. (1990). Statistical methods, concepts, application and computations. New Delhi: Sterling Publisher Pvt. Ltd.
- Belgrad, S., Burke, K. & Fogarty, R. (2008). The portfolio connection: Student work linked to standards. California: Corwin Press Inc. (A Sage Publication Company).
- Burke, K. (2009). How to assess authentic learning. California: Corwin Press Inc. (A Sage Publication Company).
- Ebel, R.L. (1996). Measuring achievements. New Delhi: Prentice Hall
- Ebel, R.L. & Fristic D.A. (1991). Essentials of educational achievements. New Delhi: Prentice Hall
- Ferguson, G.A. (1974). Statistical analysis in psychology and education. New York: McGraw Hill B.K. Co.
- Garrett, H.E. & Woodworth, R.S (1969). Statistics in psychology and education. Bombay: Vakils Feffer & Simons Pvt. Ltd.
- Guilford J.P & Benjamin F. (1973). Fundamental statistics in psychology & education. New York: McGraw Hill Book Co.
- Guskey, T.R., & Bailey, J.M. (2001). Developing grading and reporting systems for student learning. California: Corwin Press Inc. (A Sage Publication Company).
- McMillan, J.H. (2013). Classroom assessment: Principles and practice for effective standards-based instruction. Boston: Pearson
- Popham, W.J. (1990). Modern educational measurement: A practitioners perspective. USA: Prentice Hall
- Rammers, H.H. & Gaje, N.L.F. (). A practical introduction to measurement and evaluation. Delhi: University book stall
- Shepard, L.A. (2000). The role of assessment in a learning culture. Educational Researcher, 29(7), 4-14. Retrieved form <http://nepc.colorado.edu/files/TheRoleofAssessmentinaLearningCulture.pdf>
- Srivastava, A.B.L. & Sharma, K.K. (1974). Elementary statistics in psychology & education. New Delhi: Sterling Publishers Pvt. Ltd.
- Stiggins, R. (2005). From formative assessment to assessment for learning: A path to success in standards-based schools. Phi Delta Kappan, 324-328.

نمونہ امتحانی پرچہ

Model Examination Paper

احساب برائے اکتساب

وقت : 3 گھنٹہ

جملہ نشانات 70

ہدایت

- یہ پرچہ تین حصوں پر مشتمل ہے۔ حصہ اول، حصہ دوم اور حصہ سوم۔ ہر جواب کے لیے لفظوں کی تعداد اشارة ہے۔ تمام حصوں کے جواب لازمی ہے۔
- ۱۔ حصہ اول میں دس لازمی سوالات ہیں جو کہ معروضی سوالات ہیں۔ ہر سوال کا جواب لازمی ہے۔ ہر سوال کے لیے ایک نمبر مختص ہے۔
- ۲۔ حصہ دوم میں 8 سوالات ہیں۔ اس میں سے کوئی 5 کے جواب ہی لازمی ہے۔ ہر سوال کا جواب تقریباً دو سو الفاظ پر مشتمل ہونا چاہیے۔ ہر سوال کے لیے 6 نمبر مختص ہے۔
- ۳۔ حصہ دوم میں 5 سوالات ہیں۔ اس میں سے کوئی 3 کے جواب ہی لازمی ہے۔ ہر سوال کا جواب تقریباً پانچ سو الفاظ پر مشتمل ہونا چاہیے۔ ہر سوال کے لیے 10 نمبر مختص ہے۔

حصہ اول

سوال ۱

- (i) خارجی امتحان کو کم کرنے کی پیشکش کس نے کی تھی؟
- (1) سکیڈری ایجوکیشن کمیٹی
- (2) کوٹھاری کمیشن
- (3) NCF 2005
- (4) ان میں سے کوئی نہیں
- (ii) پہلا قومی تعلیمی نصاب کب وجود میں آیا؟
- (1) 2008 (2) 2007 (3) 2005 (4) 2006
- (iii) ان میں سے کون سا حافظے میں خلل پیدا کرنے والا عنصر ہے۔
- (1) تعمیراتی ماڈل
- (2) بے توجہ
- (3) تنقیدی سوچ
- (4) تخلیقیٹ
- (iv) اکتسابی ابعاد میں کتنے استدلالی عمل پیش کیے گئے ہیں۔
- (1) دو (2) تین (3) آٹھ (4) ان میں سے کوئی نہیں
- (v) تعمیریت کے مطابق استاد کا کردار ہوتا ہے۔
- (1) سہولت رساں (2) مشق کرانا (3) بیان کرنا (Lecture) (4) سبھی
- (vi) پراجیکٹ کا اصول نہیں ہے۔
- (1) مقصد کا اصول (2) سرگرمی کا اصول (3) حقیقت کا اصول (4) سہولت کا اصول

- (vii) مندرجہ ذیل میں سے کون سی شرح ارتباط کی قدر نہیں ہو سکتی ہے؟
 (1) 0 (2) -1 (3) 1.01 (4) 1
- (viii) بازرسی کی کون کون سی شکلیں ہو سکتی ہیں؟
 (1) تحریری (2) زبانی (3) A اور B دونوں (4) ان میں سے کوئی نہیں
- (ix) ڈاٹا 3,4,6,8,4,5,3,8,6,3 کا اوسط ہوگا۔
 (1) 3 (2) 4 (3) 5 (4) 8
- (x) "ہر انسان کے دماغ میں موروثی طور پر پیدائش کے وقت سے ہی علم کی کچھ بنیادی اکائیاں پائی جاتی ہیں جسے اسکیمیا کہا جاتا ہے" تعمیریت کے تعلق سے یہ نظریہ کس ماہر نفسیات کا ہے؟
 (1) کنگنکھم (Cunningham) (2) کرو اور کرو (Crow & Crow) (3) کیسویل (Caswell) (4) جین پیاجے (Jean Piaget)

حصہ دوم

مختصر جوابی سوالات

- 2- قومی تعلیمی پالیسی 1986 نے نظام تعلیم میں پرائمری سطح کے لیے کونسی تبدیلیوں کی سفارش پیش کی؟
- 3- تجربات سے خیالات کو علیحدہ کرنے کے عمل کو مختصراً سمجھائیے۔
- 4- آپ طلباء میں مجرد سوچ (Abstract Thinking) کو کس طرح فروغ دیں گے؟
- 5- تعمیریت کی تعریف لکھئے اور اس کی اہم خصوصیات بیان کیجئے۔
- 6- روبرکس سے کیا مراد ہے؟ بیان کیجئے۔
- 7- کج پن اور کوہانیت کی تعریف بیان کیجئے۔
- 8- رپورٹنگ کے معنی و اقسام کو بیان کیجئے۔
- 9- مرکزی رجحان کی پیمائش سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بیان کیجئے۔

حصہ سوم

طویل جوابی سوالات

- 10- طلباء کی جامع پروفائل کی تشکیل واس کا نظم کس طرح کریں گے؟ بیان کیجئے۔
- 11- سوالنامہ تیار کرتے وقت کن امور کو پیش نظر رکھنا چاہیے؟ مدلل بحث کیجئے۔
- 12- کوٹھاری کمیشن کی وہ کونسی خصوصیت ہے جو اسے دیگر کمیشنوں سے ممتاز کرتی ہے؟ تفصیل سے بیان کیجئے۔
- 13- احتساب کے سیاق و سباق میں فرد سے متعلق اور موضوع سے متعلق احتساب کے کیا معنی ہیں؟
- 14- پورٹ فولیو سے کیا مراد ہے، تعلیم کے میدان میں پورٹ فولیو کے کیا استعمالات ہیں؟ واضح کیجئے۔